

SENATE OF PAKISTAN

SENATE DEBATES

Thursday, March 4, 1999

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) Islamabad, at twenty two minutes after ten in the morning with Mr. Presiding Officer (Ch. Muhammad Anwar Bhinder) in the Chair.

Recitation from the Holy Quran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالموء منين ره وف رحيم ۝ فان تولوا فقل حسبى الله لا اله
الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ۝

ترجمہ: (لوگو) تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں۔ اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے (اور) مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں (اور نہ مانیں) تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے اس کے سوا کوئی مبود نہیں۔ اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔

QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Presiding Officer: The question hour, Haji Javaid Iqbal Abbasi.

Dr. Jamil-ud-Din Aali: I am on a supplementary sir,

Mr. Presiding Officer: Please ask the question number.

Dr. Jamil-ud-Din Aali: Question No. 106 :

*106. *Haji Javed Iqbal Abbasi: Will the Minister for Housing and Works be pleased to state:

(a) the names of Ministries, Divisions, Wings, Sections, Attached/Sub-ordinate Departments and Government Corporations running the private buildings and plazas etc. in Islamabad and Rawalpindi indicating also the monthly rent of each building/office; and

(b) the names of owners of these buildings/plazas?

Syed. Asghar Ali Shah: (a) Names of Ministries/Divisions and their Attached/Subordinate Departments housed in the hired private buildings plazas in Islamabad and Rawalpindi, and the monthly rent being paid for each building/office are given at Annexure I & II respectively.

(b) Names of the owners have been indicated at Annexures referred to (a) above.

* Deferred from the 23rd February, 1999.

(Annexure I & II)P-2

Sl. No.	NAME OF DEPARTMENT	ADDRESS OF BUILDING	Plot Area SQ. FT.	RENT P. M. (RS)	NAME OF OWNER
1	OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL	5-CIVIC CENTER, G-6 ISLAMABAD	8000	20,301.20	CH. CH. MUHAMMAD NAWAZ
2	ROOM OF FICE, PAK-PWD	112, G-5/1, ISLAMABAD	1000	1,200.00	MR. MIR AHMAD
3	CENTRAL LTR. CF NATIONAL SAVINGS	2ND FLOOR, AL-AMAN, BUILDING, G-6, ISLAMABAD	1000	26,637.00	MAN MUHAMMAD TUFAL
4	DTE OF RESEARCH & STATIS (C.C.B.R.)	3HABIBMANZIL, ST FL XOP 3, 2ND FLOOR, G-7, ISC	1000	13,578.00	MR. MUHAMMAD SHARIK & MUHAMMAD YOUSAF
5	A.G.F.S.	3RD FLOOR, NATIONAL POLICE FOUNDATION BUILDING, G-10/4	8000	21,225.00	NATIONAL POLICE FOUNDATION
6	C.C.DIV-VII, PAK-PWD	5-Q, G-7, ISLAMABAD	1000	12,061.00	MR. MUHAMMAD SHARIK
7	C.C.DIV-IV, PAK-PWD	5-M, G-7, ISLAMABAD	11181	46,730.00	MR. SHAIKH MOIN UDDIN AZTEM
8	C.C.DIV-III, PAK-PWD (USED AS ENQUIRY OFF)	BLK NO.1, ST. NO.9, G-8/C, ISLAMABAD.	1407	5,5712.00	M/S SHARIK & AKMAL SHARIF
9	C.C.DIV-III, PAK-PWD (USED AS ENQUIRY OFF)	BLK NO.2, BAZAR 11, H-17/4 ISLAMABAD	8000	12,076.00	MR. MUHAMMAD ASHRAF
10	C.C.DIV-7, PAK-PWD	8, MELODY MARKET, G-5	1000	16,000.00	DR. MUHAMMAD AZIM KHALID
11	C.C.DIV-IV, PAK-PWD (USED AS STORAGE OFF)	CLASS III SHOPPING CENTER, G-2/NDY 7/2-4	2000	10,005.00	AID MUHAMMAD
12	HELPING HAND TRUST PAK-PWD	5-H, G-7, F & 2ND ISLAMABAD	8000	1,200,27.00	NATIONAL GUID TRUST
		5-H, G-7, (GF), ISLAMABAD	8000		NATIONAL GUID TRUST

10	EMPLOYEES' HOME RESIDENTIAL DEPT. OFFICE	BUILDING NO.7 (3RD FLOOR) G-7 5, ISLAMABAD 21, AABPARA MARKET, ISLAMABAD 14-C F. 8, ISLAMABAD	10000 0000 10000	76,000.00 20,000.00 30,000.00	MR. JAVED IQBAL MR. MUHAMMAD SADIQ DAR MR. MUHAMMAD SAKIL BUTT
15	NARCOTICS CONTROL DIV. 8 ANTI-NARCOTICS FORCE	75-WEST EAGLE PLAZA ELLIPSE AREA, ISLAMABAD	10000	100,000.00	MR. MUHAMMAD RAFIQ RAZA
	NARCOTICS CONTROL DIV. 8 ANTI-NARCOTICS FORCE	5-A, MARKAZ F-7, ISLAMABAD	10000	75,000.00	MR. MUHAMMAD SADR RAZ
17	INDUSTRY & AGRICULTURE	6-A, MARKAZ F-7, ISLAMABAD	10000		MIR MUHAMMAD SADR RAZ
18	INTELLIGENCE BUREAU INTELLIGENCE BUREAU	505, 184, ISLAMABAD 331, F-11/1, ISLAMABAD	10000 10000	50,000.00 50,000.00	MR. ASMAT ULLAH KHAN COL. SYED YOUSAF JAMAL
19	F.I.C.	533, G-10/4, ISLAMABAD	10000	1,000.00	MRS. HIFAT ISHAQ
20	EMPLOYEES' CLUB (CCL)	5-B, SUPER MARKET F-6, ISLAMABAD	10000	70,000.00	DR. MUHAMMAD ARSHAD
21	OFFICE OF THE SECRETARY	3-A, G-7, F-6, ISLAMABAD	10000	20,000.00	MR. IMRAN TAHTAMMAD KHILFI
22	EMPLOYEES' CLUB (CCL)	3-D, G-7, F-6, ISLAMABAD	10000	20,000.00	MR. ZEBAUL WAHIDI
23	EMPLOYEES' CLUB (CCL)	20-F, BULK AREA, ISLAMABAD	10000	10,000.00	MR. MUHAMMAD AKGOMAR
24	INDUSTRY & AGRICULTURE	20-G, BHEAR G.P.O. ISLAMABAD	10000	200,000.00	Managed by Evacuation Fund Employees' Club
25	OFFICE OF THE SECRETARY REFERENCE: 1-15018-D	20-G, BHEAR G.P.O. ISLAMABAD	10000	200,000.00	Managed by Evacuation Fund Employees' Club

26	MO LOCAL GOVT. & RURAL DEVELOPMENT	HAJVERY PLAZA, BLUE AREA, ISLAMABAD	19384	130,272.00	MR MUHAMMAD MUNIR & OTHER
27	NATIONAL TRAINING BUREAU	33, BLUE AREA, ISLAMABAD	17090	91,968.00	CH MUHAMMAD RIAZ
28	MANPOWER DIVISION	10-D, BLUE AREA, ISLAMABAD	25461	142,051.00	MR RAJA MURRAWAT KHAN
29	NATIONAL TALENT POOL	70-D, BLUE AREA, ISLAMABAD	66000	66,000.00	MR SYED NUSRAT HUSSAIN ZINDI
30	DATA BASE, MANPOWER DIVISION	13-M, (F&2ND) F-7, ISLAMABAD	11378	32,651.00	M/S TSHAD, SAGHR, PAZIR, MEHRBAN, TAJ, AYAZ & YASAR
31	FILMS & PUBLICATIONS	13-M, (GF) F-7, ISLAMABAD			M/S TSHAD, SAGHR, PAZIR, MEHRBAN, TAJ, AYAZ & YASAR
32	M/O HEALTH	14(WEST), BLUE AREA, ISLAMABAD	20000	165,122.00	KH MUHAMMAD NAEEM
33	NATIONAL COUNCIL OF SOCIAL WELFARE	14-D, BLUE AREA, ISLAMABAD	11661	53,006.00	MR MUHAMMAD SAHR & OTHERS
34	WOMEN DIVISION	5-BLUE AREA, ISLAMABAD	20000	174,000.00	Building owned by SUC.
35	SPL EDUCATION & SOCIAL WELFARE	9-E, BLUE AREA, ISLAMABAD	20000	192,206.00	MR ABDUL WAHEED
36	M/O COMMERCE	7TH FLOOR BUILDING, SUC, ISLAMABAD	5000	36,623.100	Building owned by SUC.
37	FED BUREAU OF STATISTICS	12TH FLOOR BUILDING 5, BLUE AREA, SUC, IBD	5000	34,542.00	Building owned by SUC.
38	STATISTICS DIVISION	13 & 14 FLOOR, 5-BLUE AREA, SUC, ISLAMABAD	10000	60,263.00	Building owned by SUC.
39	BUREAU OF STATISTICS	17, MARKAZ G-8, IBD.	27710	117,004.00	HAJI GHULAM RASOOL
40	LIVESTOCK BUILDING, M/O FOOD & AGR.	79 (1ST & 2ND FLOOR), BLUE AREA, ISLAMABAD	10847	50,275.00	MR MUHAMMAD ASLAM, MUHAMMAD NAEEM & OTHERS

41 NATIONAL COUNCIL FOR CONSERVATION	79 (3RD FLOOR) BLUE AREA, ISLAMABAD	3182	15,980.00	MR MUHAMMAD ASLAM, MUHAMMAD NAEEM & OTHERS
42 MO CULTURE, SPORTS, TOURISM & Y. AFFAIRS	13-T, 13-U, MARKAZ F-7, ISLAMABAD	18157	70,934.00	MIS HARS NOORANI & AKHTAR REHMAN
MO CULTURE, SPORTS, TOURISM & Y. AFFAIRS	6-B, MARKAZ F-7, ISLAMABAD	20163	97,554.00	MR BRIG (RETIED) MANZDOR AHMAD
MO CULTURE, SPORTS, TOURISM & Y. AFFAIRS	13-K MARKAZ F-7, ISLAMABAD	29343	101,715.00	CH TALIB AZIZ & OTHERS
MO CULTURE, SPORTS, TOURISM & Y. AFFAIRS	SAEED PLAZA (1ST FLOOR) BLUE AREA, ISLAMABAD	7169	32,714.00	MR KHAN SHAHD ALAM
43 MO INDUSTRIES & INVESTMENT	KALSUM PLAZA (1ST & 2ND FLOOR) BLUE AREA	10752	40,921.00	BEGUM KALSOOM SAIF ULLAH & OTHERS
44 DISPOSAL WASTE	CAPITAL SERVICE BUILDING, AABPARA EBD	0432	27,786.00	MR TANVEER AHMAD & OTHERS
45 MO PETROLEUM & N.R.	21, HUMA PLAZA, BLUE AREA, ISLAMABAD	24729	186,204.00	MR KAWARTOBBAL & OTHERS
46 PLANNING DIVISION	35, BLUE AREA, ISLAMABAD	24146	308,089.00	MR MUHAMMAD AMIN CHUGHTAL
47 ELECTION COMMISSION	35, BLUE AREA, ISLAMABAD	11000		MR MUHAMMAD AMIN CHUGHTAL
48 FEDERAL SERVICE TRIBUNAL	65, BLUE AREA, ISLAMABAD	18873	142,287.00	HAJI MAUK HUSSAIN
49 ECO AFFAIRS DIVISION	3-G, SITTA RA MARKET G-7 ISLAMABAD	2021	27,517.00	MR BRIG (RETIED) SAADAT ALI
50 PAK ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY	44 (2ND & 3RD FLOOR) BLUE AREA, ISLAMABAD	10500	84,000.00	PERVAZ & CO (THROUGH AMAJAD RANDHAWA)

51 ENVIRONMENT & URBAN AFFAIRS PROTECTION COUNCIL	7TH, 8TH & 9TH FLOOR, U.B.L. BUILDING, ISLAMABAD.	22123	223,330.00	UNITED BANK LIMITED
52 DTE OF WORKERS EDUCATION, LABOUR DIV.	5TH FLOOR, RAFI CENTER, G-7 ISLAMABAD	8095	80,248.00	MR RAFI BUTT
53 AUDIT & ACCOUNTS TRAINING INSTITUTE	63-12ND & 3RD FLOOR BLUE AREA, ISLAMABAD	11001	44,709.00	M/S MANZOOR & OTHERS
54 WAF AQI MOHTASIB SECTT.	BENOLVENT FUND BUILDING NEAR ZERO POINT, ISLAMABAD	20004		FEDERAL EMPLOYEES BENEVOLENT FUND & GROUP INSURANCE
55 PRESS INFORMATION DEPTT.	BENOLVENT FUND BUILDING NEAR ZERO POINT, ISLAMABAD	46752		FEDERAL EMPLOYEES BENEVOLENT FUND & GROUP INSURANCE
56 PRESS ACADEMY	BENOLVENT FUND BUILDING NEAR ZERO POINT, ISLAMABAD	16776		FEDERAL EMPLOYEES BENEVOLENT FUND & GROUP INSURANCE
57 FILMS & PUBLICATION	BENOLVENT FUND BUILDING NEAR ZERO POINT, ISLAMABAD	20000	1,401,536.00	FEDERAL EMPLOYEES BENEVOLENT FUND & GROUP INSURANCE
58 PAK COMPUTER BUREAU	BENOLVENT FUND BUILDING NEAR ZERO POINT, ISLAMABAD	27319		FEDERAL EMPLOYEES BENEVOLENT FUND & GROUP INSURANCE
59 EXTERNAL PUBLICITY WING, MO11 & B	BENOLVENT FUND BUILDING NEAR ZERO POINT, ISLAMABAD	4165		FEDERAL EMPLOYEES BENEVOLENT FUND & GROUP INSURANCE
60 MOSQUE / ELECTRIC SUB STATION & BUILDING ENQUIRY OFFICE	BENOLVENT FUND BUILDING NEAR ZERO POINT, ISLAMABAD	4165		FEDERAL EMPLOYEES BENEVOLENT FUND & GROUP INSURANCE
61 CAFETERIA / DISPENSARY / ELECTRIC ENQUIRY OFFICE	BENOLVENT FUND BUILDING NEAR ZERO POINT, ISLAMABAD	4191		FEDERAL EMPLOYEES BENEVOLENT FUND & GROUP INSURANCE

62	INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL	6TH & 7TH FLOOR, RAFI CENTER, G-7, ISLAMABAD	12540	100,320.00	MR RAFI BUTT
63	DTE GEN. OF REGISTRATION	18-D, BLUE AREA, ISLAMABAD	23520	141,120.00	MR MUHAMMAD MUSHTAQ & OTHERS
	DTE GEN. OF REGISTRATION	18-D, 4TH FLOOR, BLUE AREA, ISLAMABAD	866	2,861.00	MR MUHAMMAD MUSHTAQ & OTHERS
64	FED FLOOD COMMISSION	16-D, BLUE AREA, ISLAMABAD	27642	189,136.00	MR MUHAMMAD SAFDAR
65	SALES TAX APPELLATE TRIBUNAL	3RD FLOOR, RAFI CENTER, G-7, ISLAMABAD	8250	62,840.00	MR RAFI BUTT
66	DEPT. OF INSURANCE	11TH FLOOR, SLIC	3204	15,847.00	Building owned by SLIC
	TOTAL:		955291	5,912,219.05	

SUMMARY: Presently 66 Offices of Ministries/Divisions/Departments are housed in 53 hired Commercial Buildings/Houses.

LIST SHOWING DETAILS OF BUILDINGS/HOUSES HIRED FOR OFFICES
OF THE FEDERAL GOVT. AT RAWALPINDI WITH THE NAMES OF OWNERS
AND MONTHLY RENT.

S.NO.	NAME OF BUILDING WITH LOCATION.	NAME OF OFFICE TO WHICH ALLOTTED	NAME OF OWNER	MONTHLY RENT.
1.	20-B-I Sumrar Plaza(FF) Chandni Chowk, Rwp.	Protectorate of Emmigrants.	Mr. Javed Malik (Attorney).	Rs. 42552/-
2.	20-B-I Sumrar Plaza(2nd Floor) Chandni Chowk, Rwp.	Estate Office, Pak. P.W.D., Enquiry Office.	-do- Mr. Khalid Puroq Qureshi.	Rs. 4882/- Rs. 1500/-
3.	148/I, Pucka Road, 178-Firdos Road, Rwp.	Auction Commission	Mrs. Yasmin Iftikhar	Rs. 7150/-
4.	179- -do-	-do- P.I.A. (Crimes).	Mr. Abdul Jalik Shau	Rs. 11200/-
5.	150-Purana Kora, Rwp.	Enquiry Office.	Army Welfare Trust.	Rs. 3500/-
6.	Punjab Forest Deptt. Building Rawalpindi.	Enquiry Office.	Punjab Forest Deptt.	Rs. 3400/-
7.	Building Rawalpindi.	1) Intt. Bureau, Rwp. ii) Federal Control Room		
8.	844/9-3, Mughalabad, Rwp.	Staff Welfare Orgn. (Industrial School).	Mrs. Noor Fatima	Rs. 2835/-
9.	P-1635, Eid Gah Road, Rwp.	Gov. P.W.D., Enquiry Office.	Mian Akhtar Zab.	Rs. 8450/-
10.	481-D, S/Town, Rawalpindi.	Passport Office, Rwp.	Mrs. Zubaida Shafi	Rs. 19250/-
11.	754-F, S/Town, Rawalpindi.	F.I.A., Rwp. Zone Rwp.	S. Ali Hamid Jafari etc.	Rs. 11355/-
12.	6-A, K.B.S.S., Rawalpindi.	F.I.A. (Passport Cell)	Mr. Khalilullah.	Rs. 12000/-

Mr.Presiding Officer: Any supplementary please Mr. Aali

Dr.Jamil-ud-Din Aali: Yes sir, there are two supplementaries,

Mr.Presiding Officer: Yes.

Dr. Jamil-ud-Din Aali: Thank you sir, I want to know how is the rent determined, there must be some formula , if that formula is operative , is that only one formula and secondly , when the negotiation takes place with the owner, who does the job or who ultimately finalizes the rent, the ministry concerned or the Works Ministry.

Mr. Presiding Officer: Minister for Housing.

سید اصغر علی شاہ - جناب چیئرمین گزارش یہ ہے کہ یہ assessment Board, Ministry میں ہوتا ہے جو کہ اس کے ریٹ کو مقرر کرتا ہے۔ ویسے یہ جو ہماری Big Cities ہیں اس کے بارے میں 1990 میں Finance Division سے یہ کہا گیا کہ جو Commercial Buildings میں اس میں پانچ روپے سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ Assessment Board میں AC ہوتے ہیں Estate FinanceDepartment سے ایک Deputy Secretary اس کا ممبر ہوتا ہے اور ایک Officer اس کا ممبر ہوتا ہے۔ یہ determine کرتے ہیں۔ اگر Rs.5/- per sq foot سے زیادہ ہوتا ہے تو then that is referred to the Finance Ministry اور وہ پھر اس کا فیصد کرتی ہے کہ اسکا rent finally کیا ہونا چاہیے۔

Mr.Presiding Officer: Mr. Khudai Noor.

جناب خدائے نور - جناب یہ اتنی بڑی رقم وہ کرانے میں جا رہی ہے۔ یہ تو صرف ایک Narcotics کا ہے جو میں نے ابھی یہاں دیکھا ہے۔ یہ زیادہ تر Narcotics والوں کا ہے۔ ایک جگہ پر ایک لاکھ چار ہزار اور ایک جگہ ہے مہتر ہزار اور ایک جگہ پر ہے کوئی اٹھارہ ہزار یعنی ایک ہی جگہ ہے اور اس کے تین مختلف دفاتر ہیں۔ کیا وہ ایک جگہ پر نہیں ہو سکتے ہیں یا یہ جو ابھی ایم این اے اور سینیٹرز صاحبان یہاں پارلیمنٹ لاجز میں آگئے ہیں اور دوسرے فیڈرل لاجز

وغیرہ خالی ہیں وہاں پر ان کو نہیں کھپایا جاسکتا۔ اس سے بہت بڑی بچت ہو گی۔ آپ اس پر غور کیوں نہیں کرتے۔

Mr. Presiding Officer: Minister for Housing.

سید اصغر علی شاہ۔ جناب چیئرمین گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ Office accommodation کے لئے حکومت کے پاس اپنی buildings اتنی نہیں ہیں۔ اس لئے ہمیں private buildings hire کرنی پڑتی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں یہ take up کیا ہوا ہے government کے ساتھ کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنی buildings بنائیں چونکہ یہ واقعی صحیح ہے کہ ہماری بہت بڑی amount اس مد میں جاتی ہے۔ یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے جیسے ہی فیصلہ ہوگا اور ہماری financial position اچھی ہوگی تو ہم construct کریں گے۔

جناب خدائے نور۔ یہ جو لاجز خالی ہوئے ہیں کیا ان میں نہیں کھپایا جاسکتا؟

جناب پریذائٹنگ آفیسر۔ جی۔ That is a proposal not a supplementary

question جی ڈاکٹر عبداللحئی بلوچ۔

ڈاکٹر عبداللحئی بلوچ۔ جناب میرا وزیر موصوف سے یہ ضمنی سوال ہے۔ یہ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے کرایوں پر، یہ بھی ایک دھندہ ہے، یہ بھی ایک مافیا ہے اس ملک کے اندر۔ اب میں آپ کو مثال دوں گا یہ PM Secretariat جو وزیراعظم صاحب نے خالی کیا ہے اس میں پانچ چھ سو کرے ہیں۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر۔ ڈاکٹر صاحب supplementary پوچھیں۔

ڈاکٹر عبداللحئی بلوچ۔ میرا ضمنی سوال یہ ہے جناب کہ آیا یہ جو سرکاری عمارتیں ہیں جن پر اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے، کیا یہ میری تجویز پر غور کریں گے کہ جو اتنا بڑا huge Prime Minister Secretariat ہے اس میں یہ سارے departments accommodate کریں۔

Mr. Presiding Officer: Minister for Housing, yes please.

سید اصغر علی شاہ۔ جناب معزز ممبر نے جو تجویز دی ہے یہ ہم convey کریں

گے۔

جناب پریڈائٹنگ آفیسر۔ شیخ رفیق احمد۔

جناب رفیق احمد شیخ۔ یہ جو معزز ممبر نے تجویز دی ہے جیسے وزیراعظم سیکرٹریٹ ہے اور کئی اور بلڈنگیں بھی سرکاری جو ہیں وہ بیچنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ وافر ہیں تو کیا ان تمام بلڈنگوں کے متعلق جو ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی تجویز ہے اس تجویز پر آپ غور کرنے کے لئے تیار ہوں گے کہ ان دفاتر کو وہاں accommodate کر لیا جائے اور یہ کروڑوں روپیہ مہینہ بچایا جائے۔

Mr.Presiding Officer: Minister for Housing.

سید اصغر علی شاہ۔ جناب چیئرمین میں نے عرض کیا کہ Higher forum پر یہ بات ہو سکتی ہے۔ ہم convey کریں گے جو آپ کی feelings ہیں۔

Mr.Presiding Officer: Next question Mr.Ghulam Qadir Chandio.

جناب رفیق احمد شیخ۔ جناب چیئرمین وہ higher forum سے مراد منسٹری سے

اوپر ہے کوئی چیز جی۔ Please let us know what is the higher forum.

جناب پریڈائٹنگ آفیسر۔ ان کا خیال گورنٹ ہے۔

جناب رفیق احمد شیخ۔ نہیں، یہ خود گورنٹ نہیں ہیں۔

جناب پریڈائٹنگ آفیسر۔ ان کا مطلب higher forum منسٹری ہے لیکن

government as a whole تو فیڈرل گورنٹ ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے۔ ٹھیک ہے جی،

میاں رضا ربانی صاحب۔

Mian Raza Rabbani: Sir, I just like to draw your kind attention to the Treasury Benches with the exception of Raja Sahib, he is the Leader of the House, there is not a single member of the Treasury who is sitting over there. Sir, I am just drawing your attention.

Mr. Presiding Officer: Attention drawn. I think, I had already requested the members that we should atleast come in time. We should not wait for the Chairman. Chairman waits for the members, members wait for the Chairman and the recitation, that is a reciprocal and I think, we should set a precedent that all of us should be present in the House at 10 'O'clock or whatever the time of the start of the session is, so that we may start the business in time. Yes, next question.

*110. *Ghulam Qadir Chandio: Will the Minister for Housing and Works be pleased to state:

(a) the total number of Government quarters/houses in Islamabad retained by the unauthorised occupants since 1980, indicating also the names, designations and departments of the unauthorised occupants;

(b) the number of unauthorised occupants in litigation;

(c) the total amount spent on contesting such law suits;

(d) the total outstanding rent against the said occupants;

(e) whether such cases have been referred to Ehtisab Cell or Public Accounts Committee; and

(f) the steps taken by the Estate Office to restrain such unauthorised occupation?

Syed. Asghar Ali Shah: (a) List attached at Annex 'A'.

(b) 37.

(c) No amount is spent by this office.

(d) mentioned in list attached at Annex 'A'.

(e) No.

* Deferred from the 23rd February, 1999.

(f) Ejection of unauthorised occupants from Government

accommodation is being made under the rules.

ANNEXURE A

STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF QUARTERS IN OCCUPATION OF UN-AUTHORISED OCCUPANTS.

NO.	NAME DESIGNATION AND DEPARTMENT.	QUARTER NO.	DATE OF UN-AUTHORISED OCCUPATION.	45-B (OLD)	45-U (NEW)
I CLASS.					
1	Mr. H. Muhammad Sh. Director General, P/O Health.	131-I, E-6/x	20/10/1997	40545/-	191356/-
2	Mr. Javed M. Iqbal, Chairman, Non-nuclei Control Authority.	54-I E-6/x	11/11/1998	7006/-	32163/-
CAT. I					
3	Mr. Muhammad Ashraf, Chemist, Director, NTP Pakistan Division.	42-CAT.I L-R	03/06/1997	52525/-	267801/-
II CLASS.					
4	Mr. Jaleel Ahmad Siddique, Joint Secy, Azad Jammu Kashmir Council Sectt, PINK.	109-H E-6/x	13/12/1998	3987/-	17822/-
IG / CAT. II					
5	Mr. Tasneem Rehman, Director, D.I.B.	56-CAT.II L-6/1	12/02/1997	8000/-	268159/-
6	Mr. Iqbal, Bashir Ahmad Bhatti, Dy. Secretary P/O Commerce Int.Sectt.	24-CAT.II, G-10/3	29/04/1997	32931/-	102038/-
7	Mr. K.M. Dilshad, Dy. Secretary, Election Commission of Pakistan.	15-CAT.II G-8/2	04/02/1996	54742/-	396657/-
8	Mr. M.M.I. Jamali, Consultant, Welfare (Technical) - Secretariat.	36-CAT.II G-10/2	30/12/1998	16232/-	112632/-

1. C. NAME/DESIGNATION/COMP. & EMPLOYMENT	2. QUARTER NO. DATE	3. DATE OF DE-AUTHORIZATION OCCUPATION	4. A.S. B (Q.D) A.S. B (Q.P.S)
<u>I. F. CLASS.</u>			
1. Mrs. Anous Jadoon, Lecturer, Fed. Govt. College, Toruwal, E/7/2.	26/A-F, E/4	1/6/1998	3560/-
2. Mr. Haroon Bashir Pir, Asstt. Film Producer, F/O Information.	34-F G. 6/3.	19/1/1999	1870/-
<u>II. E. CLASS./CAT. III</u>			
1. Miss. Seera Kausar, Lecturer, J.F.C.G. E/10/2	7/3-ST. 95 E/6/4	20/7/1995	35909.67
2. Mr. Jahan Khan Niazi, Sr. Auditor, A.C.P.R. Isl. E/6/2.	2/2-E St. 20 G/7/2.	11/10/1996	22741.93
3. Mrs. Nasreen Farid Maliv, Associate Prof., ICG E/6/2.	647-E G. 6/2	2/2/1999	48571
4. Mr. Mukhtar Ahmad Gondal, Ex. Civil Judge, Isl. E/6/2.	324-E G. 6/4	13/10/1997.	69634/-
5. Mr. A.R.P. Khan D.G. F/O Petrol etc.	74/2-E E/6/1	6/7/1998	30214/-
6. Mr. Iftikhar Ahmad, Sundt, Health Div.	267-E G. 6/4	3/4/1998	7947/-
7. Mrs. A. Ashraf, Headmistress, F.C.H.S. B.T. Isl. E/6/2.	270/E G. 6/2	8/10/1998	3015/-
8. Mr. S.M. Shouh, Research Officer, F/O Local Government.	1/A-E St. 20 07/2	10/2/99	224/-
9. Mr. M.R. Bhatti, Accounts Officer, A.C.P.R.	342-E G. 6/4	1/1/1998	8000/-
10. Late Sarwar Begum, Headmistress, F.C.S. NO. 9	622-E G. 6/2	8/7/1997-	18019/-
11. Mr. Nazir Ahmad, Dy. Director, D.I.B.	203-CAT. III I/8	3/3/1998	7148/38
	3/7-CAT. III 01/2	20/10/1997	12310/-
12.			6826/-

STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF QUARTERS IN OCCUPATION OF UNAUTHORISED PERSONS.

S. NO.	NAME & DESIGNATION	DEPARTMENT	QUARTER NO.	DATE OF UNAUTHORISED OCCUPATION	Q. O. NO.	NR. OF R.
01.	Mr. Muhammad Khalid Sub. Inspector.	Islamabad Police	20/16-B, I-9/4	18/4-1998	4952/-	23961/-
02.	Mr. M. Iqbal, A.S.I.	- do -	18/7-B, I-9/4	18-4-98	4952/-	23961/-
03.	Mr. F. U. Sothi, Inspector	- do -	1/4-5-B, I-9/4	18-4-98	4952/-	23961/-
04.	Mr. Sajid Hossain, Constable	- do -	25/8-B, G-10/3	25-2-98	5850/-	28207/-
05.	Mr. Saad Karim, Steno-Engineer	C.B.S.	8/7-B, G-10/3	31-7-1998	3167/-	15327/-
06.	Mr. Sher Ali Shah, Steno-Engineer	N. T.H. Muzover D.A.	20/5-B, G-10/3	18-5-97	3457/-	21467/-
07.	Mr. Muhammad Asad Ali	Staff Muzover Dept.	5/7-B, I-9/4	25-4-98	2742/-	13517/-
08.	Mrs. Khatun Inayat, Chief Nurse	Police Headquarters	5/7-B, G-9/2	10-12-98	898/-	4230/-
09.	The quarters in under occupation of Islamabad Police employees.		8/8-B, G-10/3	18-4-98	4952/-	23961/-
10.	Mr. Fazl Muhammad Asst.	M/O, Commerce	3/13-B, G-9/2	26-5-98	4437/-	20812/-
11.	Mr. M. Asad, Asst.	M/O, Commerce	1/10-B, G-6/2	15-5-98	4488/-	21712/-

STATEMENT SHOWING PARTICULARS OF WORKERS IN DECLARATION OF UNEMPLOYED MEMBERS.

S.I.C. NO. & DESIGNATION	DEPARTMENT	EMPLOYER'S NAME	DATE OF DECLARATION	OLD AMOUNT	NEW AMOUNT
01.	Mr. Abdul Basid Ahmed Khanpuri	Kashmir Affairs Division,	3-1-71, 26-7-97	6270/-	46212/-
02.	Mr. Abdul Rauf Khattak	Admin Department	19-3-60, 6-7-71	13211/-	101683/-
03.	Mr. Faruq Hussain Trimzi, Deputy Director	D.I.B.	29-1-60, 6-6-74	516290	39773/-
04.	Mr. Jansab-ur-Rahman, Supt.	Basind. Affairs Division,	29-3-60, 6-5-74	3992/-	30726/-
05.	Mr. Muhammad Nawaz, Asstt. Accounts Officer.	A.G.P.N.	19-6-60, 6-6-72	200735	1502/-
06.	Mr. Amir Humza, Admin Officer.	Pak. Broadcasting Corporation,	5-6-60, 6-6-74	3783/-	21119/-
07.	Mr. Shokat Ali, Sub Inspector	F.I.S.	11-10-60, 6-9-72	5705/-	43917/-
08.	Mr. Muhammad Azam, U.D.O. Sakate Office		24-2-60, 6-7-71	5780/-	43917/-
09.	Mr. Saqdar Hussain, Sub Inspector	Islamabad Police	14-1-60, 6-7-71	3080/-	23797/-

CAT-V-V D.P.F.

S.NO.	NAME/DESIGNATION AND DEPARTMENT.	QUARTER NO.	DATE OF IN-AUTHORISED OCCUPATION.	OLD 45-B	NEW 45-B
1.	Ch. Abdul Manan, Constable, Islamabad Police	27/7-Cat-V, I-9/4	12.07.97	4661/-	37663/-
2.	Mr. Muhammad Shafique, Constable "	68/5-Cat-V, G10/3.	04.09.97	4225/-	34139/-
3.	Mr. Muhammad Asghar, Head Constable "	75/7-Cat-V, G10/3	23.08.97	4323/-	34926/-
4.	Mian Khan, Constable.	18/12-Cat-V, I-9/4	16002.98	2866/-	23158/-
5.	Mr. Muhammad Ijaz	46/16-Cat-V, I-9/4	23.05.98.	5073/-	40986/-
6.	Mr. Muhammad Iqbal, Constable.	54/8-Cat-V, I-9/4.	21.01.96	9089/-	73437/-
7.	Mr. Iqbal, Constable.	3/15-Cat-V, I-9/4.	01.02.97	3500/-	28280/-
8.	Mr. Niamat Ali, H, Constable.	29/7-Cat-V, I-9/4	11.02.98	2911/-	23519/-
9.	Ch. Fayyaz, Constable	41/12-Cat-V, I-9/4.	22.06.98	1825/-	14746/-
10.	Mr. Ashiq Husein, Constable.	4/1-Cat-V, G11/4.	22.12.97	3331/-	26912/-
11.	Mr. Abdul Satter, Baig.	34/7-Cat-V, I-9/4	17.10.98	871/-	7037/-
12.	Mr. Fayyaz Guman	42/6-Cat-V, I-9/4.	02.12.97	3492/-	28215/-
13.	Mr. Altaf Aziz, ASI.	68/13-Cat-V, G10/3	21.04.89.	29333/-	237013/
14.	Mr. Habib Ullah Khan Constable	77/16-Cat-V, G10/3	01.11.97	3750/-	30300/-
15.	Mian Khan, Tele. Operator	105/8-Cat-V, G10/3.	13.04.98.	2400/-	19392/-
16.	Mst. Um-e-Salma, Teacher, F. G. Sub. for girls	100/3-Cat-V, G10/3	18.10.98.	879/-	7103/-
17.	Mr. Basbarat Hussain.	98/11-Cat-V, G10/3	30.10.98	766/-	6190/-
18.	Mr. Abid Ali, N/Q. Spl. Education.	69/14-Cat-V, G10/3.	23.10.97	3823/-	30886/-
19.	Mrs. Nusrat Bhatti, Teacher, F.G. for girls School.	103/12-Cat-V, G10/3.	02.06.98	1992/-	16093/-

B-Type

STATEMENT SHOWING PARTICULARS OF QUARTERS IF OCCUPATION OF UNAUTHORIZED PERSONS.

S.NO.	NAMES & DESIGNATION.	DEPARTMENT.	QUARTER NO.	DATE OF UNAUTHORIZED OCCUPATION.	OLD 45-B.	NEW 45-B.
1.	Mr. Ghulam Sarwar Shah, Driver.	M/O Foreign Aff.	271-B, 06/1-2.	1.8.9W.	4500/-	36360/-
2.	Mr. Asad Ali Balouch,	M/O Education.	212-B, 06/1-4.	1.1.95.	12250/-	98980/-
3.	Mrs. Noor Bungum, TUGT.	F.G.G.M. School G-7/3-2.	172-B, 0-6/2.	30.8.97.	4266/-	34470/-
4.	Muhamad Haez, LDG.	M/O Commerce.	242-B, 06/2.	3.3.98.	2734/-	22004/-
5.	Muhamad Ashraf, Constable.	D.I.B.	90-B, 0-6/1.4.			
6.	Muhamad Ismail.	Inte. Islamic Univ- G-7/2.	4/5-B, G.I. 18, G-7/2.			
7.	Mr. Muhamad Javed Abid, Plumber.	Pak. P.W.D.	10/14-B, 09/2.	15.10.97.	3687/-	31408/-
8.	Mr. Noor Muhamad, Constable.	Islamabai Police.	60/2-B, 0-9/2.		2230/-	18441/-
9.	Mr. Neem Sedar, LDG.	M/O Science & Tech.	52/1-B, 0-7/4.	27.4.98.		
10.	Mr. Muhamad Ahmed, LDG.	Food And Agrl.	37/2-B, G7/1.	20.6.98.	1842/-	14881/-
11.	Muhamad Mushtaq, UDC.	C.B.R.	2-B, 0-6/1-1.	1.3.98.	3250/-	26260/-

STATEMENT SHOWING PARTICULARS OF QUARTERS IF OCCUPATION OF UNAUTHORISED PERSONS.

S. NO.	NAME & DESIGNATION.	DEPARTMENT.	QUARTER NO.	DATE OF UN-AUTHORISED OCCUPATION.	A. TYPE.	
					OLD 45-B.	NEW 45-B
1.	Mr. Abdul Ghani, N/Qasid.	Survey of Pakistan.	2/3-A, G-1, 33, 6-7/2.	30.9.97.	3607/-	28860/-
2.	Mr. Mahmood, N/Qasid.	Estates Office, RWP.	32/3-A, G-7/4.	21.2.98.	2257/-	20314/-
3.	Mr. Meharban Khan, D.R.	Central Dte. of National Savings.	39/4-A, G-7/4.	10.9.97.	3340/-	20060/-
4.	Mst. Sulra Bibi, Aya.	F.G.S. Hospital.	29/2-A, G-7/4.	9.9.97.	3347/-	30120/-
5.	Late Muhammad Jamil, Plumber.	Pak. P. W.D.	53-A, G-7/3-1.	7.5.97.	4161/-	17452/-
6.	Late Muhammad Hayat, N/Qasid.	Agriculture Wing.	29/1-A, G-7/4.	1.2.96.	7200/-	64800/-
7.	Mst. Shah Jehan, N/Qasid.	F.G. Primary School G-6/2.	84-A, G-6/1-3.	14.1.97.	4916/-	4245/-
8.	Mr. Muhammad Arshad, I.D.C.	M/O Industries.	46-A, G-7/3-3.	22.4.97.	4260/-	38340/-
9.	Mr. Nazeer Muhammad, N/Qasid.	N.I.R.C.	49/10-A, G-9/2.	30.3.97.	4413/-	39716/-
10.	Muhammad Ibrahim, N/Qasid.	F.G.S. Hospital.	34/8-A, G-9/2.	2.2.98.	2393/-	21536/-
11.	Mr. Khalid Shamsheer, N/Qasid.	Dte. of Films Publication.	17/4-A, G-9/2.	23.12.92.	14658/-	13123/-
12.	Mrs. Zaiba Khtoon, N/Qasid.	F.P.S.C.	3/15-A, G-9/2.	25.3.96.	6845/-	61636/-
13.	Mr. Muhammad Sharif, N/Qasid.	Civil Defence.	47/1-A, G-9/2.	29.8.97.	3419/-	30774/-
14.	Late Sumarun Nisa, Water Woman.	F.G. Primary School No. 24, G-9/2.	8/1-A, G-9/2.	13.5.97.	4123/-	37103/-
15.	Mr. Ghulam Mustafa, D.M.O.	F.P.S.C.	8/2-A, G-9/2.	2.2.98.	2393/-	21536/-
16.	Mst. Suroya Begum, Aya.	Special Education.	8/15-A, G-9/2.	1.7.98.	1400/-	12600/-

Mr. Presiding Officer: Yes, supplementary please.

Dr. Jamiluddin Aali: In reply to part 'c' it has been said that no amount is spent by this office. There are unauthorised occupants. There may be two or three unauthorised occupants but the government in any case is involved because it is the government property which the unauthorised occupant has occupied. Why is the government not litigating him and if it is then how it is that it is not spending anything as they say 'no cost'. So, I think, there is a riddle and I think, the Minister would like to clarify it.

سید اصغر علی شاہ۔ جناب چیئر مین ! گزارش یہ ہے کہ standing counsel ہوتے ہیں جنہیں Ministry of Law and Justice مقرر کرتی ہے اور وہی ہمارے litigation کے cases کو pursue کرتے ہیں۔ سوال میں انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ نے ان پر کتنا خرچ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان پر ہمارا کوئی خرچ نہیں ہوا کیوں کہ وہ standing counsel منسٹری ہی مقرر کرتی ہے۔
جناب پریذائیڈنگ آفیسر۔ جی علی صاحب۔

Dr. Jamiluddin Aali: Part 'f' of the question, here it was asked what steps are being taken by the Estate Office to restrain such unauthorised occupation and its answer is; 'ejection of unauthorised occupants from government accommodation is being made under the rules'. Now sir, what rules are there? Are there many such rules which could not be listed here or what? Why has the Minister not been pleased enough to give the rules here and how would I understand?

Mr. Presiding Officer: Yes, Minister for Housing.

سید اصغر علی شاہ۔ جناب والا! Pakistan Allocation Rules, 93 کے تحت کارروائی کی جاتی ہے۔ اس میں پہلے نوٹس دینا پڑتا ہے اور اس کے بعد دوسری کارروائی عمل میں لائی

جاتی ہے۔ میں نے یہاں ان روز کا حوالہ دیا ہے۔

Mr. Presiding Officer: I think, you should give him a copy of those rules.

Syed. Asghar Ali Shah: OK, I will do.

Mr. Presiding Officer: Yes, Dr. Abdul Hayee.

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ۔ جناب چیئرمین! میرا وزیر صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ unauthorised occupants ایسے ہی نہیں آجاتے ہیں۔ یہ بڑے بااثر لوگ ہوتے ہیں اور جو گورنمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ جمٹ جاتے ہیں اور illegal کام بھی کرتے ہیں اور سالوں پڑے رستے ہیں اور کوئی کرایہ وغیرہ بھی نہیں دیتے۔ جناب والا! جو حق دار ملازمین ہیں وہ اس سہولت سے محروم رستے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس نامراد رول کو ٹھیک کرو۔ ان rules کا دھندا المباہوڑا ہے اس کو بھوڑو اور حق دار کو اس کا حق دو اور ان گندے دھندے کرنے والوں کو نکالو۔

Mr. Presiding Officer: Yes, Minister for Housing and Works.

سید اصغر علی شاہ: جناب چیئرمین! actually تو میں ان کا سلیمنٹری سمجھ ہی نہ سکا۔

جناب پریذائڈنگ آفیسر: سلیمنٹری ان کا یہ ہے کہ یہ unauthorised لوگ بڑے influential ہوتے ہیں۔ ان کے خلاف آپ کارروائی نہیں کرتے ہیں۔ آپ کیوں کارروائی نہیں کرتے؟ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کیا آپ کارروائی کریں گے؟

سید اصغر علی شاہ: جناب ہم کارروائی کر رہے ہیں۔ ہم نے کافی unauthorised لوگوں کو اٹھایا بھی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ unauthorised اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی ریٹائرڈ ہو گیا۔ under the rules ۲ ماہ کے بعد اس کو خالی کرنا ہوتا ہے۔ وہ خالی نہیں کرتے۔ پھر کچھ معاملات کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے stay مل جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس stay کو vacate کرانے کی۔ ہم اپنی طرف سے بالکل کوشش کر رہے ہیں اور زیادہ کریں گے کہ ان کو اٹھایا جائے لیکن یہ unauthorised سب ایسے نہیں ہیں کہ کوئی تالا توڑ کر بیٹھ گیا بلکہ یہ لوگ پہلے سے قانونی طور پر رستے ہیں پھر چونکہ وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اور خالی نہیں کرتے۔

ہم اپنی طرف سے under the rules پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو خالی کرائیں۔
 جناب پریذائٹنگ آفیسر، ویسے شاہ صاحب یہ بھی ایک chronic چیز ہوگئی ہے
 کہ authorised کو قبضہ نہیں ملتا اور unauthorised قبضہ چھوڑتا نہیں ہے۔ بیلک میں یہ عام
 تاثر ہے۔ اس کے متعلق کچھ فرمائیں گے۔

سید اصغر علی شاہ، جناب، میں نے گزارش کی ہے کہ یہاں پر اسلام آباد میں ۱۳۱
 ایسے کیس ہیں جن میں ۲۴ under litigation ہیں۔ انہوں نے stay لیا ہوا ہے لیکن باقی کے
 لئے ہم نے نوٹس دیا ہے۔ انشاء اللہ کوشش کر رہے ہیں خالی ہو جائیں گے۔

Mr. Presiding Officer: In those cases which are not in Court
 that is upto you to eject them and to give it to the authorised persons.

سید اصغر علی شاہ، جی ہاں، کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل خالی کریں گے۔

Mr. Presiding Officer: Next question is No. 139.

@139. Mr. Sajid Mir: Will the Minister Incharge of the Prime Minister's
 Office be pleased to state:

(a) whether it is a fact that NORI Hospital Islamabad provide free
 cancer treatment to the poor patients from Zakat Fund, if so, the number, names
 and adresses of such patients treated in that hospital since 1st January, 1998; and

(b) whether it is also a fact that free treatment is not being provided
 to the said patients, these days, due to non-availability of Zakat Funds, if so, the
 time by which Zakat Fund will be provided to the said hospital?

Minister Incharge of the Prime Minister's Office: (a) Yes.
 The poor patients visiting NORI Islamabad are entitled for free diagnosis and free
 treatment facilities. The Zakat Funds are utilized only for purchase and provision of
 chemotherapy drugs for such deserving patients. A list containing names and

addresses of 121 patients who received treatment out of Zakat Funds is attached at Annex-I.

(b) Zakat Funds amounting to Rs. 1,875,000/- were approved in respect of NORI after a lapse of about 2 years in June, 1998, for release in 3 equal installments. First installment was received on 13-6-1998, while the last and third installment was released on 12-2-99, resulting some delay for chemotherapy treatment during this period.

@ Transferred from the Health Division.

Annex

Name of Patients Who Received Treatment at NORI from Zakat Fund Since 1st January 1998

<u>Sl.No.</u>	<u>Name</u>	<u>Address</u>	<u>Date</u>
1.	Mr. Asif Iqbal S/O Mr.M. Amin	Vill. Tarnosh, Teh. Kahuta Distt. Rawalpindi	25-6-98 29-6-98 01-7-98
2.	Mr. M. Raees S/O Mr.Ghazi Khan	Vill. & P.O. Mohri The.Kotly Satin Distt. Rwp.	25-6-98 29-6-98 20-7-98 14-7-98
3.	Ms. Saeeda D/O Mr.M. SulEman	H.No.4. Non Road, Dhoke Sujraw Distt.Rwp.	25-6-98 29-6-98 20-7-98
4.	Mr. Afzal Hussain S/O Faqir Mohd.	Vill. Dungi, Khurdle Teh. Gujar Khan, Distt. Rwp.	25-6-98
5.	Ms. Rashida D/O Zareen Shah	Vill. Nawakli, Moh. Syed Khan, The. Sawabi, Distt. Mardan	4-7-98 25-7-98 8-10-98
6.	Mr. Lal Jawar S/O Mr. Mukarab Khan	Vill. Tahkot Teh. Dasu, Distt. Kohistan	25-6-98 6-7-98 27-7-98 30-7-98 6-10-98
7.	Mr. Javed Akhtar S/O Akhtar Mahmood	Moh. Sultana Abad Dhoke Hasso Rwp.	29-6-98 30-6-98 1,2,3,4,21-7-98 15-10-98
8.	Mrs. Zaib-un-Nisa D/O Mr. Yaqoob	Vill. Pullar Mehra The. Pasroor Distt. Sialkot	30-6-98 1,2,3,4-7-98 28-10-98

9.	Mr. Rehmet Bi W/O Raj Wali	H. No.ZA-484, Naie Abadi Dhoke Matkial Rwp.	30-6-98 21-7-98 13-10-98
10.	Mrs. Naseem Jan W/O Mr. Dilpazir	Vill. Dhoke Nain Sakh, Bara Kao Distt. Ibd.	30-6-98 23-7-98
11.	Mrs. Mubarak Bibi W/O Mr. Ali Akbar	Vill. Gorsai, P.O. Jabbar Dervaish, Distt. Rwp.	30-6-98 01-7-98 23-7-98
12.	Mr. Saeeda Begum D/O Haji		30-6-98
13.	Mr. Mehboob Khan S/O Mr. M. Said Khan	Muslim Colony Bari Imam, Ibd.	1,4,25,27, 29-7-98 01-8-98 04-11-98
14.	Mr. Khalil Ahmed S/O Mr. Ahmed Din	H.No.2-662, Babu Lal Hussain Road, Dhoke Ratta, Rwp.	02-7-98 30-7-98 5,14,15,19, 21-10-98
15.	Mr. Talab Hussain S/O Barkat Ali	Vill. Angoori, Teh. Murree Distt. Rwp.	2,16,20-7-98 3-8-98 17-10-98
16.	Mr. Noor Khan S/O Mr. Sarfraz Khan	Vill. & P.O. Dhermond Teh. Talagang Distt. Chakwal	2,4,28,30-7-98 01-8-98
17.	Mrs. Ghulam Fatima W/O Mr. Ellahi Bakhsh	Vill. & P.O. Joinwali Teh. Kalar Kot Distt. Bhakar	4,25-7-98 17-10-98
18.	Mr. Khuda Dad Khan S/O Mr. Umer Hayat	Vill. Beram Khail The. Easa Khail Distt. Mianwali	6,8-10-7-98 29-30-7-98 01-8-98
19.	Mrs. Naik Bibi W/O Mr. Gul Mohd.	Cha Saidan Shah Chakwal	6,27-7-98 8-10-98
20.	Mrs. Maqsoom Bibi D/O Haji Kala Khan	Dhoke Bhere Syedan Teh. Kahuta Rwp.	8,9,30-7-98

21.	Mr. Shehar Yar S/O Mr. Riasat Khan	Vill. & P.O. Kala Gujran. Moh. Dara. Distt. Jhelum	8.9.15-7-98
22.	Mr. Ghulam Khan S/O Mr. Babar Khan	Vill. Shawa. Teh. Tasht Nasrati Distt. Attok	8.9.16-7-98
23.	Mr. Aftab Ahmed S/O Mr. Zulifqar	H.No.28. Moh. Sheikha Kallar Saeeda Distt. Rwp.	9.23-7-98 5.27-10-98
24.	Mr. Yasir S/O Mr. M. Nazir	Moh. Islam Pura Vill. & P.O. Kunsali Teh. & Distt. Gujrat	9-11,13, 18-7-98
25.	Miss. Riquya Khatoon D/O Mr. Mehboob Sultan	Vill. Dhoke Hubtal P.O. Pind Mahlu. Distt. Rwp.	9.11,13,15, 16-7-98
26.	Mr. Manzoor S/O Mr. Peer Moh.	Vill. Bhanoke. The. Nowshera virkan. Distt. Gujranwala	9,11-7-98
27.	Mrs. Rehmat Noor W/O Mr. Fazal-e-Aalam	Vill. Mirza Muhalki Lundi Dheri, Teh. & Distt. Attok	10-11-7-98
28.	Mrs. Murad Bibi W/O Mr. Ghulam Rasool	Nia Moh. Nazd Moti Bazar Rwp.	11-7-98 3-8-98
29.	Mr. Noor Hussain S/O Mr. Ghulam Hussain	Vill. Kundian Teh. & Distt. Mianwali	11,18,20, 22-7-98
30.	Mrs. Zatoon W/O Mr. Fazal Hussain	18-J Moh. Tern Colony, Teh. Pind Dadan Khan Distt. Jhelum	13-7-98 13-10-98
31.	Mrs. Razia W/O Mr. Munsab Khan	Dhoke Sydean Misrial Road. Rwp.	14-7-98 17-10-98

32.	Mr. A. Rañique S/O Mr. Haroon	Vill. Hangora Phangra Teh. & Distt. Batagram	14,23,30-7-98
33.	Mrs. Nighat Ara D/O Mr. Yunas	Ward No.3 Barki Jaded Gujar Khan Rwp.	14-7-98 4-8-98 15,29-10-98
34.	Mr. Alao Jan S/O Golhat Khan	H.No.23, Moh. Shikhan Teh. Dina Distt. Jhelum	15-7-98
35.	Mr. Khalida W/O/ Mr. M. Yaqoob	H. No. BB-927, Dhoke Dalal Rwp.	15-7-98 26-10-98
36.	Mrs. Naseem Akhtar W/O Mr. Mehboob Hussain	Ara Bazar Rwp.	15-16-7-98 8-10-98
37.	Mr. M. Daud S/O Mr. Waliq	Vill. Kalawan, The. & Distt. Mansehra	15,25-7-98 3-8-98
38.	Mrs. Iaqbal Begum W/O Mr. Rushan Din	H.No.1153, Sadr Bazar Attok Cantt.	15-18-7-98 20-7-98
39.	Mrs. Waheeda W/O Mr. Ghulam Aziz	Moh. Gh. Khan, Hassan Abdal	16-10-98 6,27-10-98
40.	Mrs. Aziz-un-Nisa W/O Mr. Safdar Nawaz	Sakua Knoar The. Kahuta, Distt. Rwp.	16-7-98 8-10-98
41.	Mrs. Parveen W/O Mr. M. Ayub	Vill. Gokeena Distt. Ibd.	17-18,25-7-98 7,10,12,13, 17-10-98
42.	Mrs. Mirza Bibi W/O Mr. A. Hameed	Moh. Chaudhrian Hassan Abadal Distt. Attok	17,21-7-98 17-10-98
43.	Mr. Noor Mohd. S/O Mr. Sarfraz Khan	Vill. & P.O. Kalabagh Teh. & Distt. Mianwali	18-7-98
44.	Mr. Farooz Shah S/O Mr. M. Darvaish	Misrial Moh. Masjid Noor Dhoke Syedan Rwp.	18,21-7-98

45.	Mr. Manzoor Ahmed S/O Mr. Allah Dita	Vill & P.O. Burli Khan, Teh. & Distt. Rwp.	18-7-98
46.	Mrs. Farhat W/O Mr. A. Rehman	D-1163, Bilal Town, Jhelum	18-7-98
47.	Mrs. Nasreen Kausar W/O Mr. Zahoor Ahmed	Ward No.3 Shah Pur City Sargodha	18-7-98 8,19-10-98
48.	Mr. M. Arif S/O Mr. Ali Haider (late)	H.No.2-815, St.72, Dhoke Ratta, Rwp.	18-7-98
49.	Mrs. Bibi Gul W/O Mr. Khalil-ur-Rehman	Vill. Deu, Teh. Ghazi, Distt. Hariपुर	20,21,30-7-98 12,19,21, 24-10-98
50.	Mr. M. Rafique S/O Mr. Ghulam Rasool	Dhoke Zaman The. & Distt. Mianwali	20-7-98
51.	Mrs. Khurshid Raza W/O Mr. M. Raza	Ward No.14, Moh. Waga Wandla Distt. Layya	20,21-7-98 6,7-10-98
52.	Mrs. Mehar Fazoon W/O Mr. Sadiq	Vill. Chiti Dheri, The. & Distt. Mansehra	20,21-7-98
53.	Mrs. Zahoor Bibi W/O Mr. Altaf	Vill. Tundar, Teh. Saman Distt. Mirpur	21-23,25-7-98
54.	Master Ahmed Ali S/O Mr. Gulistan	Vill. & P.O. Thanil Kamal, Teh. & Distt. Chakwal	21-7-98 4-8-98
55.	Mrs. Noor Khanum W/O Mr. M. Khalil	ZB-108, Alima Abad Rwp	22,23,25, 27-7-98
56.	Mr. Ibrar Hussain S/O Mr. Lal Khan	Vill. & P.O. Malsa & Distt. Abbottabad	22,23,25, 29-7-98 1-8-98
57.	Mrs. Fazal Jan W/O Mrs. Fazal Hussain	Vill. Bhaua Kalan The. Gujar Khan, Rwp.	23-7-98

58.	Mrs. Aziz Khanum W/O Mr. M. Iqbal	Moh. Bando, P.O. Kot Najeb ullah Distt. Haripur	23-7-98
59.	Mr. M. Saddique S/O Mr. M. Bostan	Vill. Sikandarpur The. & Distt. Haripur	23.25-7-98
60.	Mr. Noor Ahmed S/O Mr. Raj Wali	Vill. Bamla Kalat The. & Distt. Rwp.	23-7-98
61.	Mrs. Naheed Akhtar W/O Mr. M. Idrees	E-308, Sector 4-B, Khayaban-e-Sirsyed, Rwp.	24.25.27, 29-7-98
62.	Mrs. Latifa Bibi W/O Mr. Abdul Rashid	H.No.E-8, Haji Complex, Ihd.	25-7-98
63.	Mr. M. Yousaf S/O Mr. Sardar Khan	Dheri Maro Teh. Kahuta Distt. Rwp.	25.30-7-98 1-8-98
64.	Mrs. Yasmeen W/O Mr. Riaz Hussain	Vill. Amirpur Manga P.O. Bhee The. Chakwal Distt. Jhelum	25-7-98 4-8-98
65.	Mrs. Israfeel Bibi W/O Mr. A. Salam	Vill. Barazic Teh. Hazro Distt. Attok	28-7-98
66.	Mrs. Rasham W/O Mr. Bostan Khan	Vill. Juti Pind Teh. & Distt. Haripur	28-7-98
67.	Mrs. Nazra Parveen W/O Mr. M. Ramzan	BB-72, Moh. Imam Bara St.6, Rwp.	28-7-98 4-8-98
68.	Mr. Zahid Mehmood S/O Mr. M. Sagheer	Vill. Bandi Saeeda, Distt. Abbottabad	28.30-7-98 15-10-98
69.	Mr. A Shakoor F/O Mr. Majeed	H.No.8/15, St.1, E/8, Ihd.	28.30-7-98 1.3.4.-8-98
70.	Mr. Kajal Khan S/O Mr. Kashmir Khan	Vill. Naseerabad The. & Distt. Zhob	30-7-98 1.3.5.6.7.8.26, 27.28, 29-10-98

71.	Mrs. Akbar Jan W/O Mr. M. Bashir	Mehra Kalan, Chakri Road, Distt. Rwp.	30-7-98 29-10-98
72.	Mrs. Zarmina W/O Mr. Aman Gul	Vill. Bhara Kau. The. & Distt. Ibd.	31-7-98 1,3,4-8-98 5,7,8,27, 29-10-98
73.	Mr. Zafar Iqbal S/O Mr. Said Ahmed	Vill. Sihala Teh. & Distt. Ibd.	31-7-98
74.	Mr. Manzoor Hussain S/O Mr. M. Khan	Gufsingial Teh. Kahuta, Distt. Rwp.	1-8-98
75.	Mr. Shafatullah S/O Mr. M. Yasin	H.No.2792 Cola Center, Sadar Bazar, Rwp.	1-8-98
76.	Baby Uzma D/O Mr. Khawaj Muhammad	Vill. Sherghar Teh. Ugi, Distt. Manshira	1-8-98
77.	Mr. M. Bashir S/O Mr. Bilo Din	74, Gardan Road, Near Railway Station, Rwp.	1-8-98 15-10-98
78.	Mr. Khalid S/O Mr. Noor M.	Saigal Abad, The. & Distt. Chakwal	3,4-8-98 19-10-98
79.	Mr. Sajjid Mehmood S/O Haji M. Akram	NE-688-13, Moh. Islamabad, National Town, Rwp.	5,24,27, 28-10-98
80.	Mrs. Imtiaz Begum W/O Mr. Fiaz Hussain	Vill. Pinwal, Teh. & Distt. Chakwal	5,13-10-98 4-11-98
81.	Mrs. Mumtaz Begum W/O Mr. Nazir Ahmed	Nawababad Teh. Texila, Distt. Rwp.	6,28-10-98
82.	Mr. M. Asghar S/O Mr. Karam Khan	Vill. Pind Saral, The. Jund, Distt. Attok	6,7,8,10,28,29 31-10-98 2-11-98
83.	Miss. Shabnum D/O Mr. Ishfaq Ahmad	H.No.D-16, St.1, Moh. Muslimabad, Rwp	7-10-98 31-11-98

84	Mr. M. Waqoob S/O Mr. M. Zameer	H.No.ZA-1365, Berang Road, Dhoke Matkial, Rwp.	15,17,19,22, 26-10-98
85	Mrs. Zaitoon Bibi W/O Mr. Azeem Khan	Vill. Malik Mola, Distt. Attok	8-10-98 5-11-98
86	Mrs. Shumaila Bibi D/O Mr. M. Zahoor	H.No.SN-52, St.1, Dhoke Kala Khan, Rwp.	8-10-98
87	Mr. Karamat Hussain S.O Mr. M. Shafi	H.No.ZA-510-I, St.2, Khawaja Abad, Dhoke Matkial, Rwp.	10,12-10-98 4,5-11-98
88	Mrs. Shagufta W/O Mr. Chiragh Din	H.No.DD-73, Jhanda Chichi, Rwp.	12-10-98 3-11-98
89	Mrs. Israfiy Bibi W/O Mr. Mir Afzal	Vill. Barazic, Teh. & Distt. Attok	12-10-98 3-11-98
90	Master Azeem S/O Mr. Bashir	Rehana Haripur	13-10-98 05-11-98
91	Mrs. Mumtaz S/O Mr. M. Younas	H. No. NE 703 St. 3 Dhoke Khabba Rwp.	13-10-98 17-10-98
92	Mrs. Maria W/O Abdus Salam	RI.-27 Rashid Colony Sadiqabad Rwp.	13-10-98
93	Mrs. Razia W/O Mr. M. Nawaz	Vill. Sohava Teh. & Distt. Jehlum	14-10-98
94	Mrs. Rahat Jan W/O Ch. Muhammad	Vill. Manora Teh. Jand Distt. Attok	14-10-98
95	Mrs. Ghulam Fiza W/O Sabir Hussain	Vill. Sang Teh. Gujjar Khan Distt. Rwp.	15-10-98
96	Mrs. Shahnaz Akhtar W/O Mr. Shakeel Akhtar	Vill. Kirpa Teh. Distt. Islamabad	17-10-98
97	Mrs. Salat Khateon W/O Mr. M. Hyat	Khaliqabad Khushab	17-10-98

98.	Mr. M. Rasool S/O Mr. Shahabuddin	Vill. China Teh. & Distt. Manshra	29-10-98 05-11-98
99.	Master Ali S/O Mr. Aslam	Vill. Shalar Dara The. & Distt. Attock	20-10-98 27-10-98
100.	Mr. M. Razzaq S/O Mr. Ghulam Haider	Vill. Sohawa, Teh. & Distt. Chakwal	26-10-98 31-10-98 05-11-98
101.	Mrs. Razia W/O Mr. M. Sharif	Z-286 St. 45 ⁷ Dhoke Ratta. Rwp.	21, 22 & 24-10-98
102.	Mrs. Mumtaz Bibi W/O Mr. M. Hanif	Mian Dheri, Terbela	21, 26 & 28-10-98 04-11-98
103.	Mr. M. Daud S/O Mr. M. Hamid	Plot 761- Sector 2 Khalabutt Town ship Haripur.	22-10-98
104.	Mr. Bakhat Begum W/O Mr. Mehr Khan	Vill. Mohira Sharif P.O. Bheen Teh. & Distt. Chakwal	24, 31-10-98
105.	Mr. M. Akram S/O Mr. Ghulab Khan	Vill. Dhoke Gunga Wali Teh. Pindi Gheb Distt. Attock	24-10-98
106.	Mrs. Razia Begum W/O Raza Khan	H.No. 1245 Mohalla Mehrpur East Distt. Attock	26-10-98
107.	Mr. Chanpir Shah S/O Badar Shah	Basti, Kachi Abadi Munirabad Lalazar Wah Cantt	27-10-98
108.	Mrs. Marjan W/O Waris Khan	Vill. Pathar Gerh The. Hassan Abdal Distt. Attock	28-10-98
109.	Mrs. Maryam W/O Mr. M. Hassan	Vill. & P.O. Sawance Mianwali	28-10-98 04-11-98
110.	Mr. Tanvir Sadiq S/O Mr. M. Sadiq	P.O. Choa Khalisa The. Kahuta Distt. Rwp.	28, 29-10-98 02, 05-11-98

111.	Mr. M. Bashir S/O Mr. Rehmat Khan	Vill. Jana Chak The. Phafia Distt. Mandi Bhauddin	29,31-10-98 04,05-11-98
112.	Mrs. Cheena D/O Mian Mukkaram Shah	B-575 St. 28 New Mohalla Liaquat Road. Rwp.	29-10-98
113.	Mr. Matloob S/O Mr. Ghulam Muhammad	H No. 680 Qasimabad Rwp.	29-10-98 05-11-98
114.	Mrs. Imtiaz Begum W/O Mr. Shareen Khan	Lane No. H-5. Attock Oil Company, Morgah. Rwp.	30-10-98
115.	Mr. M. Afzal S/O Mr. Bagh Ali	Vill. Sukho Road Chaungi Gujar Khan Distt. Rwp.	31-10-98 3-11-98 02-11-98
116.	Mr. M. Aslam S/O Mr. Sarwar Khan	Vill. Lehri Teh. Kahuta Distt. Rwp.	31-10-98 04-11-98
117.	Mr. Karam Dad S/O Mr. M. Jee	Vill. Kolati Hazroo Distt. Attock	02-11-98 04-11-98
118.	Mrs. Bhag Bhari W/O M. Nawaz	Vill. Hattar Teh. Talagung Distt. Chakwal	04-11-98
119.	Mr. M. Saleh S/O Mr. Mir Ahmed	Vill. Bata Mori The. & Distt Batagram	04-11-98
120.	Mr. A. Rashid S/O Mr. M. Anwar	Vill. Kokla Pindori Teh. & Distt. Haripur	04-11-98 05-11-98 07-11-98
121.	Mr. Mumtaz Iqbal S/O Mr. Matiuddin	Vill. Dheri Mula P.O. Gode Teh. Hassan Abdal. Attock	04-11-98 05-11-98 07-11-98

Mr. Presiding Officer: Any supplementary, please.

جناب رفیق احمد شیخ: سلیمنٹری یہ ہے کہ یہ جو ڈیڑھ پونے دو سال نومبر ۱۹۹۶ سے لے کر جون ۱۹۹۸ تک جن غریبوں کا علاج نہیں ہو سکا اس کی ذمہ داری کس پر ہے۔ کیا گورنمنٹ ذمہ داری قبول کرنے کے لئے تیار ہے۔

میاں محمد یسین خان وٹو، کوتاہی ہوئی ہے جو کہ نہیں ہوئی چاہیئے تھی۔ ۱۹۹۸ کے متعلق جو سوال ہے وہ اب اس سال میں آگئی ہے اور ان کا علاج شروع ہو جائے گا۔

Mr. Presiding Officer: Mr. Aali.

Dr. Jamil-ud-Din Aali: Mr. Chairman, with reference to this, I want to ask a supplementary question that in interior Sindh I don't know that there are similar hospitals authorised to provide treatment for them. But I would like to submit through you for the consideration of Minister concerned that a very eminent young journalist and writer Ali Nawaz Zahidi, suffering from cancer plus some other disease and is not being treated even by Zakat Fund, so, would the Minister concerned consider this that Ali Nawaz Zahidi, about whom so many associations in Sindh - Moro - Nawab Shah, have passed resolutions, could be considered for medical aid through purchase of medicines not cash, I say, by the Zakat Committee as a very special case.

Mr. Presiding Officer: Minister for Parliamentary Affairs.

میاں محمد یسین خان وٹو، جناب والا! فاضل ممبر صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے جہاں ضرورت ہے کسی مریض کو تو ہم اس کی پوری امداد کے لئے تیار ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت ٹوٹل ایسے ہسپتال ہیں۔ بارہواں ہسپتال بھی بن جائے گا۔ اگر وہ کراچی میں ہیں تو کراچی میں بھی یہ ہسپتال ہے۔

ڈاکٹر جمیل الدین عالی، نور جمانیاں مورو۔

میاں محمد یسین خان وٹو، تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کراچی میں ایک under construction ہے اور ایک function کر رہا ہے۔ اگر وہ ان کے قریب ترین ہے تو وہ وہاں چلے جائیں اور میں متعلقہ ہسپتال کو ہدایت جاری کر دیتا ہوں۔ کراچی میں ہے، جامشورو میں ہے اور لاڑکانہ میں ہے۔

جناب پریذائڈنگ آفیسر، جناب جاوید اقبال عباسی صاحب۔

حاجی جاوید اقبال عباسی، جناب چیئرمین! آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ یہ جو اسکیم شروع کی گئی ہے غریب اور نادار لوگوں کی مدد کے لئے عشر ذکوٰۃ فنڈ سے علاج معالجہ کے لئے، تو جناب میری وزیر موصوف سے گزارش ہے کہ جب کبھی بھی کوئی غریب اور نادار مریض آتا ہے علاج کے لئے PIMS میں یا کسی اور جگہ، کسی اور ہسپتال میں تو وہاں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی مقامی عشر ذکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین سے تصدیق کروا کر لائیں۔ جناب کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ موت کے قریب ہوتے ہیں یعنی اگر ان کو فوری treatment نہ دی جائے تو خدا نخواستہ ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جناب اس formality کو پورا کرنے میں ایک ایک ہفتہ بھی لگ جاتا ہے۔ میری ان سے یہ گزارش ہے کہ ممبران اسمبلی یا سینٹ یا ایم پی اے صاحبان کو اس کی تصدیق کرنے کا اختیار دیا جائے کیونکہ وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں۔ کیا وزیر صاحب اس پر غور کریں گے کہ ان لوگوں کی recommendation سے یا ان کی سفارش سے یہ کام ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہر آدمی کو دستخط کر کے دیں گے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کون غریب ہے؟ کون نادار ہے اور کون اس چیز کا مستحق ہے؟ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ پیسہ ان ہی غریب اور نادار لوگوں پر خرچ ہونا چاہیے۔ جناب! یہ ایک غور طلب مسئلہ ہے کیونکہ ایسے غریب اور نادار لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک ایسا مریض میرے پاس آ گیا جس کے لئے میں راتوں رات ایبٹ آباد گیا اور وہاں سے تصدیق کروا کر لایا اور پھر اس نجی کا آپریشن ہوا۔ مہندہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک حل طلب مسئلہ ہے اور فوری توجہ کا حامل ہے۔ جناب ذکوٰۃ فنڈ کو ان لوگوں کے علاج معالجہ کے لئے خرچ ہونا چاہیے جو اس کے مستحق ہیں اور ممبران پارلیمنٹ کی recommendation پر خرچ ہونا چاہیے تو آیا کوئی ایسی پالیسی زیر غور ہے؟

جناب پریذائٹنگ آفیسر، وزیر برائے پارلیمانی امور۔
 میاں محمد یسین خان وٹو، جناب چیئرمین! فاضل ممبر صاحب کی تجویز مناسب
 ہے اور جاتے ہیں اور میرے خیال میں اس پر ہم ہمدردانہ غور کریں گے۔ میں instruct کروں گا
 concerned اداروں کو کہ وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز صاحبان کی سفارش کو مد نظر رکھیں۔
 جناب پریذائٹنگ آفیسر، جناب مختار احمد خان صاحب۔

میجر (ریٹائرڈ) مختار احمد خان، جناب میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ
 یہ facility جو ملتی ہے NORI میں، کیا یہ پشاور کے کسی ہسپتال میں مل رہی ہے؟ اگر مل رہی
 ہے تو اس کا نام بتادیں۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، جی جناب وزیر صاحب۔

میاں محمد یسین خان وٹو، جی پشاور میں ہسپتال ہے جناب۔ یہ پشاور میں بھی
 ہسپتال ہے، ایٹ آباد میں بھی زیر غور ہے، کوئٹہ میں بھی ہے۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، جی جناب ڈاکٹر حنی بلوچ صاحب۔

ڈاکٹر عبدالحمی بلوچ، جناب چیئرمین! میرا وزیر موصوف سے یہ سوال ہے کہ ہم
 اور چیزیں تو کھا جاتے ہیں لیکن ہم ذکوٰۃ بھی کھا جاتے ہیں، عشر بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ کیسے
 لوگ ہیں، کسی پر رحم نہیں کرتے۔ کسی غریب پر رحم نہیں کرتے۔ ایسے ظالم ہیں ہم لوگ۔
 جن کے پاس اقتدار ہے، وہ بیت المال، ذکوٰۃ، عشر سب ہڑپ اودھم کر جاتے ہیں تو پھر یہ
 غریب کا کینسر کا علاج کہاں سے ہوگا؟ میں دیانت داری سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ذکوٰۃ عشر فخذ کو
 ضائع نہ کریں اور جو غریب لوگ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں، ان کا علاج اس سے
 کریں تو اس سے بہت سے غریب لوگوں کو سہولت میسر ہو سکتی ہے۔

Mr. Presiding Officer: Put the supplementary please. This is all

criticism Baluch sahib.

آپ ضمنی سوال پوچھیں۔

ڈاکٹر عبدالحمی بلوچ، میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ ذکوٰۃ عشر میں جو خرد برد ہے،

بددیاتی ہے، پہلے اس کو ٹھیک کریں اور اس پیسے کو غریب لوگوں کے لئے خرچ کریں۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، یہ پھر suggestion ہے۔ آپ یہ پوچھیں کہ کیا کریں گے۔ آپ سوال پوچھیں، آپ نے سوال پوچھنا ہے۔ آپ suggestion نہ دیکھیں۔

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ، میرا سوال یہ ہے جناب والا! کہ یہ جو ذکوٰۃ عشرہ فہذ جس مہند کے لئے بنایا گیا ہے، آپ کب اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کو جائز مقاصد کے لئے استعمال کریں اور مریضوں کے لئے خرچ کریں۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، اب ضمنی سوال بنا ہے۔ جی وزیر صاحب۔

میاں محمد یسین خان وٹو، جناب والا! ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جائز جگہ پر اور جہاں اجازت ہے قانون کے مطابق، اسلام کے مطابق، وہاں خرچ کیا جائے۔ غریبوں کی مدد کے لئے، یواؤں کی مدد کے لئے، یتیموں کی مدد کے لئے، لیکن اگر کوئی اتنے callous لوگ ہوں، اتنے corrupt لوگ ہوں کہ جو یتیموں، یواؤں اور غریبوں کے اس حق پر ڈاکہ ڈالیں تو جہاں ہمارے نوٹس میں آتا ہے۔ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جاتا ہے۔ اگر فاضل ممبر پوائنٹ آؤٹ فرمائیں کہ کسی نے زکوٰۃ اور عشرہ کے فہذ میں خوردبرد کی ہے یا اس کا غلط استعمال کیا ہے یا کسی غریب کے حق کو مارا ہے تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ اگر وہ چاہیں تو میں آپ کی وساطت سے درخواست کروں گا کہ کسی کو انکوآئی آفیسر مقرر کر دیں۔ اگر وہ مطمئن ہو جائیں تو پھر وہ جو سزا تجویز کریں گے ہم وہی سزا دیں گے۔

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ، میں بہت ادب سے عرض کروں گا کہ ہمارے محترم وزیر بہت ہی لائق انسان ہیں۔ میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں لیکن یہ بات وہ فرماتے ہیں کہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 90 فیصدی لوٹ مار والے ہیں، صبیحیں بھرتے ہیں۔ ایسے لوگ میرے علم میں ہیں۔ سارے ملک میں کوئی پانچ دس فیصد خدا ترس ہوں گے لیکن خدا ترس کم نظر آتے ہیں۔ حکومت کی اس پر گرفت نہیں ہے۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، جی پراچہ صاحب۔

جناب احسان الحق پراچہ، جناب چیئرمین! میں وزیر موصوف سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ

گزشتہ دو سالوں میں زکوٰۃ فنڈ سے کتنی حکامتیں آئیں اور کتنے لوگوں کو سزائیں ملی ہیں۔
 میاں محمد یسین خان وٹو، اب جناب والا خود ہی انصاف فرمائیے کہ یہ سوال نیا
 ہوگا تو جواب آئے گا۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، جی اس کے لئے نیا نوٹس دے دیں۔ جی جناب اقبال حیدر۔
 سید اقبال حیدر، میرا محترم وزیر صاحب سے یہ سوال ہے کہ NORI ہسپتال کی
 سہولت کب سے مہیا ہونی شروع ہوئی ہے۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کے لئے فنڈز
 جیسا "بی" میں لکھا ہے۔

(b) Zakat Funds amounting to Rs. 1,875,00/- were approved in
 respect of NORI after a lapse of about 2 years in June 1998, for release in 3 equal
 installments. First installment was received on 13-6-98, while the last and third
 installment was released on 12-2-99, resulting some delay. So, my question is when
 were this hospital facilities established.

Mr. Presiding Officer: Secondly, no secondly, firstly, after that
 secondly.

میاں محمد یسین خان وٹو، جناب والا! exact date تو میرے پاس نہیں ہے۔
 جناب پریذائٹنگ آفیسر، میں صاحب It should be لیکن یہ question یہ تھا
 کہ دو سال بعد ہوئی ہے۔

میاں محمد یسین خان وٹو، کافی عرصہ سے یہ ہسپتال کام کر رہا ہے اور یہ دو سال
 کے لئے جو ہے، کیا وہ واقعی دو سال کے لئے انہوں نے جواب میں عرض کیا ہے اس دو سال
 کے لئے کیا وجہ ہے کیوں نہیں فراہم کیا جا سکا۔ یہ جو 1998 اٹھارہ لاکھ فراہم کیا گیا ہے۔ یہ
 تین installment میں release کر دیا گیا ہے اور اب ہسپتال میں۔۔۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، کب شروع ہوا تھا وہ تاریخ اقبال حیدر صاحب کو فراہم
 کر دیجیئے گا۔ جی اقبال حیدر صاحب۔

سید اقبال حیدر، اسی سے متعلق ہے کہ کل NORI کے تحت مستفید ہونے والے مریضوں کی تعداد حیران کن ہے کہ وہ صرف 121 ہے آج تک جو آپ نے فرمائی ہے۔ کینسر کے علاج پر اخراجات تو بے پناہ ہوتے ہیں تو اٹھارہ لاکھ صرف 121 مریضوں کے اوپر خرچ ہوئے ہیں یا اس سے پہلے اگر فنڈز رلیز نہیں ہوئے تھے تو آیا مریضوں کا علاج کوئی ہو نہیں رہا تھا یا انیس اللہ کے حوالے کیا ہوا تھا یا ان کا علاج دعاؤں سے کر رہے تھے۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ رقم کم نہیں ہے۔

سید اقبال حیدر، بہت کم ہے۔

میاں محمد یسین خان وٹو، جناب والا! عرض یہ ہے کہ جس وقت زکوٰۃ فنڈ نہ بھی ہو اس وقت بھی مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔

سید اقبال حیدر، دواؤں سے یا دعاؤں سے۔

میاں محمد یسین خان وٹو، دونوں طریقوں سے۔ دعا سے بھی دوا سے بھی۔ آپ کے زمانے میں تو دعاؤں سے بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب دعاؤں سے بھی ہوتا ہے اور دواؤں سے بھی ہوتا ہے اور یہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے یہ صرف ان مریضوں کے لئے ہے جن کے وسائل ان اخراجات کی اجازت نہیں دیتے۔

سید اقبال حیدر، جناب والا! ایسی کوئی سکیم سندھ میں بھی ہے۔

میاں محمد یسین خان وٹو، یہ ایک اضافی امداد ہے، صرف یہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک اضافی امداد ہے۔

سید اقبال حیدر، جناب والا ایسی کوئی تجویز سندھ کے لئے بھی ہے کیونکہ وہاں بہ بھی کینسر کے مریض ہیں۔

میاں محمد یسین خان وٹو، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کراچی میں ایک ہسپتال کام کر رہا ہے، دوسرا under construction ہے تیسرا جامشورو میں ہے، لاڑکانہ میں ہے۔

سید اقبال حیدر، ان کے نام کیا ہیں؟

میاں محمد یسلین خان وٹو، نام پٹاور اور کوئٹہ کے تو لکھے ہیں۔ باقی کے نام میں آپ کو دے دیتا ہوں بعد میں۔

سید اقبال حیدر، یعنی کراچی اور سندھ میں وہ بے نام ہیں؛

میاں محمد یسلین خان وٹو، میں نے صرف حوروں کا نام نوٹ کیا ہے۔ جواب میں تو نہیں تھا۔ supplementary کے لئے میں نے خود نوٹ کیا ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ ایک under construction ہے، جام شورو میں ہے۔ لاڈکانہ میں ہے۔ ملتان اور اسی طرح اسلام آباد میں، پٹاور میں، کوئٹہ میں، فیصل آباد میں اور ایٹ آباد میں ان کی planning ہو رہی ہے۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، اقبال حیدر صاحب یہ بے نام ہیں گناہ نہیں ہیں۔

سید اقبال حیدر، یعنی یہ بے نام ہیں؛

میاں محمد یسلین خان وٹو، نہیں بے نام نہیں ہیں۔ ان کے نام ہیں۔ میں آپ کو جگہ بتا رہا ہوں۔ نام بھی آپ کو دے دوں گا۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، جناب خدائے نور صاحب۔

جناب خدائے نور، جناب چیئرمین صاحب! مہربانی۔ وٹو صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ عشر میں، زکوٰۃ میں یا بیت المال میں اگر کوئی ایسی دھاندلی ہوئی ہے یا کوئی اگر نشان دہی کرے تو ہم اس کی تحقیقات کریں گے اور ان کو قرار واقعی سزا بھی دیں گے۔ میں نے as Khuda-e-Noor، ۱۹۹۷ء نومبر میں دو اصلی عہدے دار، وفاقی منسٹر، گورنر بلوچستان اور احتساب کمشنر کو reference دیئے۔ چونکہ وہ گورنر تھا اور گورنر گورنمنٹ کا منظور نظر ہے، ہر گورنمنٹ کا۔ دوسرا تھا نصیر اللہ بابر ان کے بارے میں، میں نے دیا لیکن آج تک ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی ہے۔ چھ کروڑ روپے کا بمع ثبوت، وہ چیک جو انہوں نے تقسیم کئے، ان چیکوں کی فوٹو سٹیٹ کاپی دی ہے۔ موجودہ حکومت نے آج تک اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بات پر کھڑے ہیں کہ واقعی ہم سزا دیں گے تو آپ وہ merit list منگوائیں۔ نومبر ۱۹۹۷ء کو میں نے reference داخل کئے۔ اس پر action لیں اور کارروائی کریں۔ کیا آپ اس چیز کی یقین دہانی کرائیں گے؟

Mr. Presiding Officer: Minister for Parliamentary Affairs.

میاں محمد یسین خان وٹو، جی یقیناً ' وہ یہ particulars مجھے مہربانی کر کے عنایت فرما دیں۔ میں متعلقہ محکمے کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجوں گا کہ ان لوگوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ جناب اس سوال میں کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ کتنے مریضوں کا وہاں علاج ہوا۔۔۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، یہ assurance record ہو گئی ہے میاں صاحب اس سوال کے متعلق۔

میاں محمد یسین خان وٹو، میں عرض کر رہا ہوں کہ میں ان سے particulars لوں گا۔ وہ بھی مہربانی کر کے مجھے وہ particulars دے دیں اور جس شخص نے یا جن اشخاص نے چھ کروڑ یا آٹھ کروڑ زکوٰۃ یا عشر کا کھایا ہے، ان کو سزا دینا ہمارا اخلاقی اور قانونی فرض ہے۔ میں فاضل ممبر صاحب کے اس اقدام کی ستائش کروں گا کہ انہوں نے اس مسئلے میں ایک concrete بات اٹھائی ہے کیونکہ general بات کا جواب تو general ہی ہوتا ہے۔ جب concrete بات ہوگی تو اس کا حل بھی صحیح ہو سکتا ہے۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، جہانگیر بدر صاحب۔

جناب جہانگیر بدر، شکریہ جناب چیئرمین! یہ شکایت عام پائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ خدمت کمیٹیوں کے ذریعے مسلم لیگ کے کارکنوں اور حمایتیوں میں بانٹا جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وزیر موصوف نے اس کے تدارک کے لئے کیا پروگرام بنایا ہے؟

میاں محمد یسین خان وٹو، میں ایک عرض کروں کہ ویسے تو یہ زکوٰۃ کا علیحدہ مسئلہ ہے۔ سوال تو اسپتال کے متعلق تھا اور اسپتال کے متعلق زکوٰۃ کی رقم کے متعلق تھا۔

Mr. Presiding Officer: Yes, you are right.

میاں محمد یسین خان وٹو، میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بے شک یہ سوال اس سے متعلق نہیں ہے لیکن خدمت کمیٹیوں کے ذریعے زکوٰۃ اور عشر کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس کے لئے زکوٰۃ اور عشر کی علیحدہ کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ وہ کمیٹیاں ہر چیز کو دیکھتی ہیں۔ خدمت

کمیشنیں، کہیں اگر گز بڑ ہو رہی ہو تو اس کا احتساب کرتی ہیں۔ وہ زکوٰۃ اور عشر تقسیم نہیں کرتیں۔ وہ کمیشنیں علیحدہ ہیں۔ ہر جگہ پر 'گاؤں میں بھی اور شہروں میں بھی اور پھر ضلع کے administrators ہیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ صوبائی کمیشنیں ہیں، پھر مرکز میں کمیشنیں ہیں اس سلسلے میں۔ وہ اس چیز کو باقاعدہ دیکھتی ہیں۔ ایک عرصے سے یہ نظام چل رہا ہے۔ ان کے زمانے میں بھی وہی نظام چلتا رہا ہے جو اب چل رہا ہے۔ اب گاہے بگاہے کچھ اس طرح ہو جاتا ہے۔

جناب جہانگیر بدر: جناب مجھے پہلے بات مکمل کر لینے دیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال متعلقہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سوال متعلقہ ہے۔ جب یہ پیسہ کینسر کے مریضوں کے لئے ہے۔ یہ مسلم لیگ کے کارکنوں میں تقسیم کر دیا جائے گا تو ان مریضوں کا علاج کیسے ہوگا؟

جناب پریذائٹنگ آفیسر: پہلے جو آپ نے سوال کیا وہ supplementary نہیں تھا۔ that was too generalised وہ دوسرے aspects کے متعلق تھا۔

جناب جہانگیر بدر: جناب والا! میری بات تو پہلے ختم ہو جائے۔ انہوں نے جو یہ سسٹم بتایا ہے کہ زکوٰۃ کمیشنیں الگ ہیں، خدمت کمیشنیں الگ ہیں، میں کہتا ہوں کہ شیخ اور شیطان دونوں ایک ہیں یہ ملی جھگت سے پیسہ کھایا جا رہا ہے۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر: یہ سلیمنٹری نہیں ہے، جی۔

میاں محمد یسین خان وٹو، جناب والا! ان کی یہ بات غلط ہے کہ مسلم لیگ کے ورکر اس پیسے کو تقسیم کر رہے ہیں، اس پیسے کو نہ تو مسلم لیگ کے ورکر تقسیم کرتے ہیں اور نہ ہی خدمت کمیشنیں تقسیم کرتی ہیں۔ اس کی تقسیم کے لئے باقاعدہ قانون کے مطابق کمیشنیں قائم ہیں اور یہ نظام function کر رہا ہے۔ عہلے حکومت اپنے ورکرز استعمال کرتی تھی لیکن مسلم لیگ کی حکومت اس کو اس طرح تقسیم نہیں کرتی ہے۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر: جی عباسی صاحب۔

حاجی جاوید اقبال عباسی، جناب والا! میرا سلیمنٹری سوال یہ ہے کہ وزیر موصوف نے ابھی یہ کہا ہے کہ ایٹ آباد میں کینسر ہسپتال کے لئے کوئی جگہ propose کی ہے، تو میں

اس سلسلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آیا انہوں نے وہاں پر کوئی جگہ خریدی ہے ، کیا ترتیب ہے تاکہ ہم جواب دے سکیں۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، جی وزیر برائے پارلیمانی امور۔

میاں محمد یسین خان وٹو، جناب والا! یہ ابتدائی stage پر ہے اور اس کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، جی راجہ اورنگزیب صاحب۔

راجہ اورنگزیب ، جناب چیئرمین! یہ جواب تو انہوں نے دے دیا ہے لیکن اس ضمن میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے معزز رکن سینٹ جہانگیر بدر صاحب نے جو فرمایا ہے کہ خدمت کمپنیاں اور مسلم لیگ کے ورکرز پیسہ تقسیم کر رہے ہیں ، تو اب تک جو زکوٰۃ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں وہ انہی کے وقت کی nominations ہیں ، پیسے پارٹی کی ہیں ، اب تک وہی لوگ کام کر رہے ہیں ، ہم نے ان کو نہیں پھیرا ہے۔ اس کے بعد ان کا یہ کہہ دینا کہ مسلم لیگ کے ذریعے پیسے تقسیم ہو رہے ہیں ، یہ بالکل غلط ہے۔

Mr. Presiding Officer: This is not supplementary. Next question No.

168. Dr. Muhammad Ismail Buledi.

168. *Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for Water and Power be pleased to state:

(a) the time by which Panjgore, Buleda and Gawadar will be linked with the Pasni grid-Station;

(b) the time by which the engine of the said grid-station will be overhauled; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to install a new engine in that grid-station, if not, the reasons thereof?

Mr. Gohar Ayub Khan: (a) The status of the works of Panjgore,

Buleda and Gawadar and linking these grid station with Pasni Grid station is as under:-

Panjgore Grid Station

Construction of 132 KV grid station at Panjgore and 132 KV transmission line from Hoshab to Panjgore are in progress. Both the works were to be completed by 6/99 but are delayed due to financial constraints faced by WAPDA.

Gawadar Grid Station

Construction of 132 KV grid station at Gawadar is 20% complete. Further progress is held up due to financial constraints faced by Wapda, and non transfer of balance funds by GOB and GOP as per ECNEC decision. Same is the position of 132 KV Pasni-Gawadar transmission line for which survey and soil investigation have only been completed.

Buleda Grid Station

There is a proposal for the construction of 132 KV Grid Station with 132 KV single circuit transmission line from Turbat. However due to financial constraints faced by WAPDA the construction could not be started.

(b) The position is as under:-

Diesel Engine No. 2, Pasni Power Station.

The spares for Diesel Generating set No. 2 have arrived at Karachi Port. Arrangements are in process for custom clearance. It is expected that by the end of Sept. 99, the unit will be put into operation.

Diesel Engine Nos. 1,3,4, Pasni Power Station.

The procurement of spare parts of these units is expected by the end of Dec. 99. On receipt of the spares the overhauling of the units will be carried out one by one.

(c) No. Because Thermal Power Plant can be undertaken in public Sector anymore.

Mr. Presiding Officer: Any supplementary. Yes, Dr. Hayee sahib.

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ، جناب والا! میرا وزیر موصوف سے سوال ہے کہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، یہ پورے مکران ڈویژن کا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک ضلعے کا مسئلہ نہیں ہے۔ پنجگور، گوادر کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب میں وزیر صاحب سے عرض کروں گا کہ 8 سال سے، تقریباً 90ء سے پنجگور کے لئے بجلی کا کام ہو رہا ہے۔ بلوچستان حکومت اور وفاقی حکومت دونوں کام کر رہی ہیں حالانکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ واپڈا کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ گرڈ اسٹیشن اور transmission line بچھائے، پورے پاکستان میں واپڈا نے بچھائی ہے سوائے بلوچستان کے۔ جب بلوچستان کی بجلی کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ بلوچستان حکومت بھی حصہ لے۔ بلوچستان حکومت کے بس میں جو تھا اس نے وہ دے دیا ہے، اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب تو وزیر اعلیٰ یہاں تنخواہ کے لئے آتے ہیں کہ تنخواہ کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں۔ بات صاف ہے کہ ان کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے، نہ transmission line کے لئے نہ گرڈ اسٹیشن کے لئے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے آٹھ سال کی یہ progress ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ پنجگور ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے۔ جناب۔ میرا وزیر موصوف سے ضمنی سوال یہ ہے کہ کیا اس بارے میں کوئی واضح پالیسی ہے۔ گوادر میں آج کل deep sea port بننے والی ہے، 12 گھنٹے بجلی ہو گی اور وہ بھی ڈیزل انجن کی اور جو لمبی power plant ہے اس کا خانہ خراب ہو گیا ہے۔ واپڈا کے ٹھیکیداروں کی ٹلی بھگت سے جو تین چار ایرانی انجن وہاں تھے ان کا خانہ خراب ہو گیا ہے۔ اس جواب میں دیا گیا ہے کہ وہ ردی ہو چکے ہیں، ان کی مرمت بھی دسمبر 99ء میں ہو گی اور کسی کی مرمت ستمبر 99ء میں ہو گی۔ وہ بھی تقریباً ناکارہ ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی پاور گرڈ اسٹیشن کو مکمل کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ دوسرے فیز کے بارے میں حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں کریں گے، پرائیویٹ سیکٹر کرے گا۔

جناب پریذائڈنگ آفیسر، ڈاکٹر صاحب! سٹیٹسٹری کیجئے، تقریر نہ کیجئے۔ عام طور

پر سٹیٹسٹری ایک ایک لائن کے ہوتے ہیں۔

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ، میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ مکران ڈورین کو نیشنل گرڈ اسٹیشن سے ملانے کے لئے کیا اقدامات کئے جا رہے ہیں۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، جی وزیر برائے بجلی۔

جناب گوہر ایوب خان، جناب چیئرمین! سینئر بلیدی صاحب نے جو سوال کیا تھا اور ڈاکٹر حنی صاحب نے اس پر ضمنی سوال پوچھا ہے، اس میں گرڈ اور transmission اور پبلی کے generating stations کا نام ہے۔ انہوں نے ابھی جو کہا ہے کہ نیشنل گرڈ اسٹیشن کب کیا جائے گا تو جناب! جو پہلے سے ہیں وہ ہی پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ واہڈا تو اپنا پورا کام کر چکی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی پیسے دینے تھے وہ نہیں آئے۔ گورنمنٹ آف بلوچستان نے پیسے دینے ہیں وہ نہیں آئے۔ جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ واہڈا 42% دے گا یا جتنے بھی دے گا تو اتنا ہی گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف بلوچستان دے گی۔ بلوچستان کے ٹائڈے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جب ایک پروجیکٹ منظور ہوتا ہے تو پھر ہم آگے جاتے ہیں۔ جس طرح یہ سینئر صاحب کہہ رہے ہیں، اگر بلوچستان کے پاس پیسہ نہیں تو وہ آگے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پھر گورنمنٹ آف پاکستان اس کو لے سکتی ہے۔ واہڈا کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہے تو یہ responsibility بلوچستان گورنمنٹ کی ہے، چیف منسٹر کی بنتی ہے کہ وہ واپس گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آئیں، اپنی فائنل پوزیشن بتائیں۔

اور جو پبلی میں فرنس آئل پر انجن چل رہے ہیں ان میں کچھ نقص تھے۔ ان کے لیے spare parts آچکے ہیں کراچی انیر پورٹ سے ان کو clear کروا کے ہم ان انجنوں کو repair کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو نیشنل گرڈ کا کہا ہے انہوں نے، اس کا میں survey کرا دوں گا۔ اس پر کافی خرچہ آئے گا لیکن I can bring that some times after a fortnight or three weeks

جناب پریذائٹنگ آفیسر، عباسی صاحب۔

حاجی جاوید اقبال عباسی، میرا ضمنی سوال ہے کہ گرڈ اسٹیشن کالا باغ NA-12

میں زیر تکمیل ہے۔ آیا وزیر صاحب یہ بتائیں گے کہ وہ کب تک مکمل ہوگا؟

Mr. Presiding Officer : Not arising out of this question. Mr.

جناب خدائے نور، میں گوہر صاحب سے صرف یہی پوچھوں گا، لمبی تقریر نہیں کروں گا۔ جہاں تک گوادر کاسٹہ ہے وہاں سب کچھ ہے لیکن وہاں ان کو بجلی نہیں مل رہی ہے۔ آپ نے جو فیول ان کو دینا تھا وہ حرص سے آپ ان کو دے نہیں رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پورا گوادر شہر اندھیرے میں ہے۔ آپ سے گزارش صرف یہی ہے کہ آپ ان کو فیول کے پیسے جو پہلے بھی آپ دے رہے تھے کیا وہ دیں گے تاکہ وہاں لوگوں کو روشنی تو میسر ہو۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، وزیر بجلی۔

جناب گوہر ایوب خان، جناب میں بڑا خوش ہوں کہ بلوچستان کے ممبر power distribution اور Grid generating stations اور transmission line کے مسائل سینٹ میں اٹھاتے ہیں۔

Mr. Presiding Officer: I think the members from Balochistan are very active and they raise every question on the floor of this House. Thats very good.

جناب گوہر ایوب خان، بہت اچھا ہے جی۔ It is a good thing. It is very encouraging. اب یہ ہے کہ سینٹ سیشن ختم ہوتا ہے تو میں، جتنے coastal areas ہیں بلوچستان کے، خود جا کے ان کو دیکھوں گا personally. Then I will be in a far better position اور میرا جو objective ہے کہ یہ situation redress ہو، اس کا حل نکلے اور حل نکلنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، جی اکرم شاہ خان۔

جناب اکرم شاہ خان، جناب میرا آپ کے توسط سے وزیر صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ دیکھیں کہ سوال میں 'اب'، 'ج'، 'د' جتنے جزو ہیں ان سب میں جواب یہ ہے کہ واپڈا کی مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کام روک دیے گئے ہیں۔ یقیناً واپڈا کو مالی مشکلات ہیں لیکن ہم نے محسوس کیا ہے کہ اس میں زیادہ تر ہمارے صوبے کے کام متاثر ہوتے ہیں، ان کو روک دیا جاتا

ہے۔ باقی ملک میں بھی واہڈا کے کام چل رہے ہیں، وہاں پر بھی مالی مشکلات ہیں۔

اسی طریقے سے گدوں سے ایک ٹرانسمیشن لائن جو کوئٹہ اور سبی تک 95 میں مکمل ہونی تھی شاید اب تک بھی پورے طریقے سے مکمل نہیں ہوئی۔ میری وزیر موصوف سے یہ گزارش ہے کہ وہ واہڈا کی جو مالی مشکلات ہیں اس کو پورے ملک میں تقسیم کریں۔ یہ نہیں کہ اس وجہ سے صرف ہمارے صوبے کے کام روک دیے جائیں باقی جگہوں پر کام جاری رہے۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ اس کو ذرا ٹھیک طریقے سے کریں تاکہ ہم پر زیادہ اثر نہ پڑے۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، اس کو سوال کی شکل میں ڈھال لیجئے۔

جناب اکرم شاہ خان، جی جناب میں وزیر صاحب سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ۔۔۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، گزارش نہ کیجئے سوال کیجئے۔

جناب اکرم شاہ خان، جی میرا ان سے سوال ہے کہ وزیر صاحب ایسے اقدامات کریں گے کہ

واہڈا کی مالی مشکلات سے ہم زیادہ متاثر نہ ہوں، باقی صوبوں پر بھی یکساں اس کا اثر پڑنا چاہیے۔

Mr. Presiding Officer: Yes now it is a supplementary. Yes please.

جناب گوہر ایوب خان، جناب چیئرمین صاحب! معزز سینیٹر کی یہ فکر میرا خیال

ہے بجا نہیں ہے کہ بلوچستان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ابھی حاجی جاوید اقبال عباسی صاحب بھی یہ مسئلہ raise کر رہے ہیں کالا باغ کے گورڈ اسٹیشن کے بارے میں۔

کالا باغ NA-12 میں ہے۔ وزیر اعظم وہاں سے elect ہوئے ہیں، وہاں کے ممبر ہیں۔

اگر وزیر اعظم کے حلقے کے بارے میں وہ complaint آ رہی ہے، گورڈ اسٹیشن مکمل نہیں ہو رہا تو

آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم تمام علاقوں کو برابر حیثیت دے رہے ہیں۔ کیونکہ فائنل پوزیشن

اس وقت واہڈا کی یہ ہے۔ اگر کوئی ایسا Minister ہوتا تو پہلے جا کے NA 12 کا یا کالا باغ کے

گورڈ اسٹیشن کو لے کے کہتا کہ ہاں Prime Minister صاحب میں نے کر دیا ہے۔ وہ شاباش

دے دیتے لیکن بلوچستان کی problems ہماری نظر میں ہیں اور میں جانتا ہوں، محسوس کرتا ہوں

کہ problems ہیں اور ان کو ضرور انشاء اللہ حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔

ڈاکٹر عبدالحی بلوچ۔ جناب میرا ضمنی سوال ہے۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر۔ ڈاکٹر صاحب۔

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ۔ میں نائندگی بھی وہاں سے مکران ڈورین سے کر رہا ہوں۔ مجھے انہوں نے متنب کیا ہے، میری تو کھال اتارتے ہیں کہ آپ وہاں ہمارے مسئلے پر نہیں بولتے۔ میں وزیر موصوف صاحب یہ ضمنی سوال کرتا ہوں کیونکہ یہ WAPDA نہیں ہے، حکومت بھی ہے، وفاقی حکومت بھی ہے۔ وفاقی حکومت ہمیں یہ assurance دے، اس floor پر یہ assurance دے کہ جناب یہ 2000 میں، 2002 میں، 2001 میں، 2010 میں ہمارے آٹھ سال تو گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ بلوچستان حکومت کی policy واضح ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ میں نے frankly کہا کہ یہاں اکثر وزیر اعلیٰ آتے ہیں، اخبارات میں آتا ہے۔ میں categorical سوال یہ کروں گا کہ جناب یہ ہمیں یہ assurance دیں تاکہ پھر ہم اسے assurance کی طرف لے جائیں خاص طور پر بلوچستان پر ایک تو یہ ہے کہ 'پہنی، گوادر، پنج گور، آواران اور جناب یہ پورا ایک ہی علاقہ ہے۔ آپ اس کو کب مکمل کریں گے، ایک دوسرا یہ ہے کہ 220 KV کی دادو سے خضدار transmission line کی ایک policy تھی اس کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو انجن تباہ ہو گئے ہیں۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر۔ تین تو نہیں ہو سکتے، ایک ہی سوال ہو سکتا ہے۔

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ۔ جناب سوال ہے، 'time بچا رہا ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ وزیر موصوف یہ تحقیقات فرمائیں گے کہ یہ کروڑوں، اربوں روپے کے، جو پہنی Power station کے WAPDA اور ٹھیکیداروں کی ملی بھگت سے، انجن تباہ ہو گئے جو انہوں نے ملک کو اور قوم کو نقصان دیا ہے اس کا ازالہ کس طرح کریں گے اور خاص طور پر گوادر کو کب توجہ دیں گے۔ جناب گوادر deep sea port بننے کو جا رہا ہے اور دس گھنٹے بجی نہیں ہوتی۔ وہاں ان کے لئے ان کی کیا policy ہے۔

Mr. Presiding Officer: Minister Water and Power now.

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ۔ Via گوادر، پہنی یا گوادر میں کوئی power plant لگائیں گے جناب۔ یہ سمجھائیں کہ گوادر power plant لگائیں گے یا پھر کہاں سے اس کو بجلی دیں گے۔

جناب پریذائڈنگ آفیسر۔ آپ تعریف رکھیں۔ آپ نے تین supplementary ایک میں ملا دیئے ہیں۔

جناب گوہر ایوب خان۔ جناب چیئرمین صاحب! میرا خیال ہے کہ جتنے سوال اور supplementaries بلیدی صاحب کرتے ہیں سینٹ میں ان کی کوئی کھال نہیں اتارے گا۔ Sorry ڈاکٹر عبدالحی صاحب کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کے area سے ان کی کوئی کھال نہیں اتارے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ ٹپاش دے دے کے، تھپکی دے دے کے اس جگہ سے کھال اتر جائے اس کی میں guarantee نہیں کرتا ہوں۔

سید اقبال حیدر۔ اپنے علاقے کے لوگوں کے لئے درد ہے۔

جناب گوہر ایوب خان۔ جی ہاں بہت اچھی بات ہے۔ Sir, appreciate کر رہا ہوں۔

سید اقبال حیدر۔ اور ہم بھی appreciate کرتے ہیں کہ آپ ان کمیاب وزراء میں سے ایک ہیں جو کہ اپنے ٹکے کے سوالات کے جوابات خود دینے کی زحمت اٹھاتے ہیں۔ باقی تو سب absentee Ministers بنے ہوئے ہیں، absentee landlords کی طرح سے۔

Mr. Presiding Officer: Yes, please.

میاں محمد یسین خان وٹو۔ یہ آپ نے عادت ڈالی ہے۔

سید اقبال حیدر۔ نہیں۔

جناب گوہر ایوب خان۔ جہاں تک جناب چیئرمین صاحب! یہ تین چار شہروں کی بات کر رہے ہیں ان کے grid stations اور power projects funds کی کمی کی وجہ سے incomplete ہیں، موجودہ بجٹ میں ان کے لئے پیسے نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو 99-2000 کا بجٹ ہو گا، اس میں کتنے پیسے ڈال سکتے ہیں، WAPDA کے constraints دیکھ کے انشاء اللہ کیونکہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی planning میں غامی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ projects لے لیتے ہیں اور پھر اس کو مکمل نہیں سکتے، price escalation ہوتی ہے، اس رواج کو میں WAPDA میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کم بھی ہو، on time ہو اس کی price escalation نہ ہو، damages نہ آئیں اور area میں بھی serve کریں۔ Next budget کے لئے

میں پوری کوشش کروں گا۔ جہاں تک -----

Mr. Presiding Officer: Next question, Dr. Muhammad Ismail Buledi.

Yes.

جناب گوہر ایوب خان۔ جناب ایک second جہاں تک پہنی میں generating stations تھے اس کا میں نے کہہ دیا ہے کہ port پر spare parts آگئے ہیں اور ان کو جلدی transport کر کے، operation کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔

Mr. Presiding Officer: Next question, Dr. Muhammad Ismail Buledi.

Yes.

جناب گوہر ایوب خان۔ جناب مجھے موقع تو دیں۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر۔ جی ٹھیک ہے۔

جناب گوہر ایوب خان۔ اب جہاں enquiry کرنی ہے، generating stations کی mal function کی وجہ یا غلط یا ناقص فرس آئل ڈالنے کی وجہ سے، وہ میں ضرور کرا لوں گا اور آپ کو پیش بھی کر دوں گا۔ جہاں تک نئے generating یا thermal power stations لگانے پڑیں گے on fuel وہ ابھی WAPDA نہیں کر سکتا۔ ECNEC کا decision ہے، government کا decision ہے کہ ہم صرف hydel لے سکتے ہیں۔ یہ thermal power stations ہم construct نہیں کر سکتے یا expand نہیں کر سکتے۔ اس کو private sector کرے گا۔ Thank you جی۔

Mr. Presiding Officer: Next question please.

169. *Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for Petroleum and Natural Resources be pleased to state:

- (a) the time by which Saindak Project will be completed;
- (b) the amount spent on this project so far; and
- (c) the amount required for its completion?

Ch. Nisar Ali Khan: (a) The project construction was completed by Chinese contractors in August, 1995 and operated for trial production upto January, 1996. Project could not be operated for commercial production due to lack of expertise and working capital.

(b) Rs. 13.632 million have been spent on the Saindak project upto 30-6-98.

(c) Rs. 1500 million are required as working capital. Request has been made to the Chinese Government for a subsidized interest loan of \$ 24 million for working capital requirement. Local Banks have also been approached for rupee part of the working capital requirement.

Mr. Presiding Officer: Any supplementary, yes.

جناب خدائے نور۔ جی اس سینڈک پر کہا گیا ہے کہ اتنے خرچ ہو گئے ہیں وہ تو صحیح ہے لیکن اس پر میرا supplementary بھی ہے۔ آپ اس کو defer کریں کیونکہ وزیر صاحب نہیں ہیں۔

میاں محمد یسین خان وٹو۔ میں جواب دوں گا۔

جناب خدائے نور۔ جناب والا! آپ اس سوال کو ڈیفیر کر دیں کیونکہ بخاری خان صاحب نہیں ہیں۔

Mr. Presiding Officer: The consensus of the House is that this question should be deferred. So it is deferred. Next question Mr. Sajid Mir.

170. *Mr. Sajid Mir: Will the Minister for Housing and Works be pleased to state the criteria for allotment of plots to the Government employees in Sector, G-13, Islamabad?

Mr. Asghar Ali Shah: The criteria for allotment of plots to the

Federal Government employees in G-13 sector, Islamabad are as under:--

(i) Seniority for the purpose of allotment shall be determined in the order of date of birth of the eligible applicant.

(ii) In the cases of widows of the Federal Government employees, seniority shall be determined on the basis of length of Federal Government service of the deceased employee.

(iii) In the cases of federal Government employees who became disabled during service seniority shall be determined in consideration of the nature/extent of disability.

(iv) First priority shall be given to those applicants who or whose spouse(s) or any other member of their families neither owned a plot/house in Islamabad on 1-4-1996 nor were they ever allotted any plot/house by the CDA, Federal Government Employees Housing Foundation, Defence Housing Authorities or any other authority.

(v) Second priority shall be given to those applicants who or whose spouse(s) and any other member of their families owned a plot/house in Islamabad on 1-4-1996 but were never allotted a plot in Islamabad by the CDA, Federal Government Employees Housing Foundation, Defence Housing Authorities or any other authority.

Mr. Presiding Officer: Any supplementary. Yes, Mr. Rashdi.

جناب حسین شاہ راشدی - جناب والا! یہ حکومت ملازمین کو کافی پلاٹ دینے کے متعلق سوچ رہی ہے - میں وزیر صاحب سے پوچھوں گا کہ جن سرکاری ملازمین نے پلاٹ کے لئے درخواست دی تھی مگر اس اثناء میں وہ ریٹائر ہو گئے تو کیا وہ بھی پلاٹ کی الاٹمنٹ کے مستحق ہوں گے۔

سید اصغر علی شاہ۔ جناب چیئرمین! جو 1996 کی cut off تاریخ تھی اس وقت تک جو بھی ملازم تھا اور اس نے درخواست دی تھی وہ اسی کرائیو کے مطابق consider ہو گا۔

حاجی جاوید اقبال عباسی۔ جناب والا! آیا منسٹر صاحب اس پر غور کر سکتے ہیں کہ جن سرکاری ملازمین کے یتیم بچے اور بیوائیں رہ گئی ہیں ان کی درخواستوں کو consider کیا جاسکے۔

سید اصغر علی شاہ۔ جناب چیئرمین! گزارش یہ ہے کہ جو criteria اس وقت مقرر کیا گیا تھا اس میں بیواؤں کے لئے بھی کوٹہ تھا اور جنہوں نے درخواستیں دی ہوں گی ان کو بالکل consider کیا جانے کا اس criteria کے مطابق۔

حاجی جاوید اقبال عباسی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو یتیم یا بیوائیں اس وقت کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے تھے ان کو consider کرنے کے لئے آپ کوئی پالیسی وضع کریں گے کہ درخواست لینے کے لئے ان کو مزید ٹائم دے سکتے ہیں۔

سید اصغر علی شاہ۔ جناب چیئرمین! گزارش یہ ہے کہ جتنے متوقع پلاٹ ہیں ان سے بہت زیادہ درخواستیں اس وقت بھی آگئی تھیں۔ اس وقت بھی ہمیں سٹائٹس ہزار سے زیادہ درخواستیں آگئی تھیں اور ہمیں توقع ہے کہ نوٹل چار ہزار دو سو چھاس پلاٹ ملیں گے۔ میری گزارش یہ ہے کہ پہلے ہی درخواستیں زیادہ دی گئی تھیں اور جو criteria میں نہیں آ رہے تھے ان سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے پیسے واپس لے لیں اور تقریباً بائیس ہزار درخواست دہندگان نے اپنے پیسے واپس لے لئے ہیں۔ اس لئے اس وقت کسی نئی درخواست کو consider کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

راجہ اورنگ زیب۔ جناب والا! میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ اگر کسی ملازم کو پلاٹ مل چکا ہو، خواہ سی ڈی اے سے ملا ہو یا کسی اور سکیم سے ملا ہو تو کیا اس کی بھی یہاں entitlement بنتی ہے۔

سید اصغر علی شاہ، جناب چیئرمین! اگر جواب پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی ترجیح ان کو دی جائے گی جنہیں کسی سوسائٹی یا کسی گورنمنٹ یا سی ڈی اے سے کوئی پلاٹ

نہیں ملا ہے۔ دوسری ترجیح میں وہ ہیں جن کا اپنا گھر اسلام آباد میں ہے۔ ان کو second priority پر رکھا گیا ہے۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر۔ یعنی ان کو بھی نہیں دیا جائے گا یا دیا جائے گا۔

سید اصغر علی شاہ، جس کو پہلے پلاٹ ملا ہوا ہے اس کو نہیں دیا جائے گا۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، جس کا اپنا گھر ہے اس کو بھی نہیں دیا جائے گا۔

سید اصغر علی شاہ، ان کا اپنا گھر ہے لیکن ان کو فاؤنڈیشن سے یا کسی سوسائٹی

سے پلاٹ نہیں ملا ہے۔

Mr. Presiding Officer: But they are not on the second priority.

They are ineligible you mean to say.

سید اصغر علی شاہ، جناب والا! ineligible وہ ہیں جن کو پہلے پلاٹ ملا ہوا ہے۔

لیکن جن کا اپنا گھر ہے لیکن انہوں نے فاؤنڈیشن یا سوسائٹی سے پلاٹ نہیں لیا ہے ان کا

second priority پر ہے۔

Mr. Presiding Officer: They are eligible.

Mr. Asghar Ali Shah: Yes, they are eligible.

حاجی جاوید اقبال عباسی۔ وزیر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں

کہ جن لوگوں کے already مکان موجود ہیں ان کو second priority پر رکھ رہے ہیں اور جن

سرکاری ملازمین کے یتیم یا مستحقین رہ گئے ہیں آیا ان کو یہ کچھ رعایت دینے کو تیار ہیں کہ وہ

درخواست دے سکیں۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر۔ انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ مشکل ہے۔ مسٹر

بشیر احمد مٹہ۔

جناب بشیر احمد مٹہ۔ میں ان کے سوال کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ ابھی یہ پلاٹ

الٹ نہیں ہوئے ہیں اس لئے اگر کوئی زیادہ deserving applicants ہوں بیواؤں میں سے

تو ان کو کیوں exclude کیا جا رہا ہے because the process is not yet complete.

Mr. Presiding Officer: Minister for Housing and Works.

سید اصغر علی شاہ، جناب چیئرمین! میری گزارش یہ ہے کہ جس وقت یہ سکیم announce کی گئی تھی اس وقت یہ شرائط بھی اس کے ساتھ رکھی گئیں۔ اس وقت اگر ان میں کوئی change ہو گا تو یہی لوگ کورٹ میں چلے جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا گیا ہے، جب آپ نے brochure میں ایک چیز دکھائی تو اب مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اس کو reconsider کریں۔

ڈاکٹر عبدالحق بلوچ، جناب محترم سوال یہ ہے کہ اسلام آباد والوں کا بھی حق بنتا ہے۔ ہم پورے ملک کے نمائندے ہیں۔ میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ یہ Sector G-13 بڑی اچھی سکیم ہے تو کیا ہماری تجویز پر غور فرمائیں گے کہ جو بچارے رہ گئے ہیں جیسے وزیر صاحب نے فرمایا کہ ۷۰۰۰ سے بھی زیادہ applicants ہیں۔ اسلام آباد میں زمین تو بہت بڑی ہے کیا کوئی ایسا سیکٹر ہے ان ملازمین کے لئے جو بے چارے حصار ہیں 'رہ گئے ہیں' ان کے لئے کوئی اور سیکٹر تجویز فرمائیں گے؟

Mr. Presiding Officer: Minister for Housing.

سید اصغر علی شاہ، جی Foundation کوشش کرے گی کہ اگر اسے کسی اور جگہ سے CDA سے یا کہیں سے کوئی ملتا ہے تو اس کو consider کیا جاسکتا ہے۔

Mr. Presiding Officer: Next question Mr. Sajid Mir.

(interruption)

میاں محمد یسین خان وٹو، میں جواب دینے کے لئے حاضر ہوں۔

(interruption)

جناب پریذائٹنگ آفیسر، وہ consensus کی بات ہے اور یہی consensus ہے۔

This is also deferred. Next question Mr. Sajid Mir.

Syed Iqbal Haider : But the Minister is absent.

جناب پریذائٹنگ آفیسر یہ تو مختصر سا ہے۔

سید اقبال حیدر، جی جناب مگر the Minister is absent اس میں ضمنی سوالات اتے مختصر نہیں۔

Mr. Presiding Officer: Deferred. Next question Dr. Safdar Ali Abbasi, No.173.

173. *Dr. Safdar Ali Abbasi: Will the Minister for Religious Affairs, Zakat, Ushr and Minorities Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that honorarium has been granted to various employee of Ministry of Religious Affairs and Ministry of Finance in connection with dealing the business of Nifaz-e-Shariat Convention held in 1998, if so, the names and designations of the persons to whom it has been granted indicating also the amount granted to each; and

(b) the details of duties performed by the said persons?

Reply not received.

Dr. Safdar Ali Abbasi: Reply not received.

راجہ محمد ظفر الحق، جناب چیئرمین اس سوال کا جواب منسٹری میں بنایا گیا تھا۔ میں اس سے مطمئن نہیں تھا۔ میں نے انہیں دوبارہ کہا ہے کہ سارے کوائف دیں تاکہ ہاؤس کو پیش کئے جاسکیں۔

Mr. Presiding Officer: So, we defer it for the next day.

سید اقبال حیدر، جناب اگر وزیر ہے تو جواب نہیں اور اگر جواب ہے تو وزیر غائب یہ کیا انداز ہے ہاؤس کو چلانے کا۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر: لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ کو

جو جواب ملے گا۔ وہ زیادہ authentic ملے گا۔ He was not satisfied with the answer.

سید اقبال حیدر، وہ بات بجا ہے ان کی 'درست ہے' جو انہوں نے توجیح دی وہ صحیح ہے۔ وہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں۔

Mr. Presiding Officer: Next question Dr. Abdul Hayee Baloch.

ایک بات ہے اس میں مشاہد حسین صاحب کے متعلق۔

میاں محمد یسین خان وٹو، آپ جواب لینا چاہیں تو اس کے لئے بھی حاضر ہوں اگر defer کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے۔

جناب پریذائڈنگ آفیسر، چیئرمین صاحب کو اطلاع موصول ہوئی ہے کہ He is having temperature. تو اس لئے ان کو ہاؤس کا خیال ہے۔

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ، جناب میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی تجویز ہے ویسے ہاؤس میں بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ متعلقہ وزیر صاحبان موجود رہیں تو بہتر ہے۔ اس کو Defer کریں۔

Mr. Presiding Officer: It is deferred. Next question Dr. Abdul Hayee

Baloch, No.175.

175. *Dr. Adul Hayee Baloch: Will the Minister for Water and Power be pleased to state the time by which the work of electricity supply line from Pasni Grid Station to Panjgore, Balochistan will be completed?

Mr. Gohar Ayub Khan: The work will be completed in one year provided funds amounting to Rs. 445.46 million are released by the Government of Pakistan and Balochistan.

Mr. Presiding Officer: Any supplementary, please?

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ، جی ہاں۔ وزیر صاحب نے پہلے بھی جوابات دیئے، میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے مسائل پر توجہ دے رہے ہیں۔ ان کے فنڈز ان کو اجازت دیں گے، حکومت کتنا تعاون کرے گی وہ الگ بات ہے لیکن ہم ان کے ذاتی طور پر مشکور ہیں کہ وہ

ہمارے مسائل سمجھتے ہیں۔

Mr. Presiding Officer: Then no supplementary should be put.

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ، جناب میں نے سوال کیا تھا کہ یہ یعنی گارڈ سٹیشن، بھنگور۔۔۔ یہ سارا مسئلہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا۔ صرف assurance ہم چاہتے ہیں اگر وہ دے سکیں اس معزز ایوان کو کہ یہ جو یعنی پاور گارڈ سٹیشن سے جو بھنگور لائن ہے۔۔۔ کیونکہ بھنگور کا ۹۰۸ سال سے بجلی کا مسئلہ حل رہا ہے۔ یہ کوئی assurance اگر ایسی دے سکیں تو یہ ان کی مہربانی ہوگی۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر، ایک سال کا عرصہ اس میں لکھا ہے۔

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ، نہیں، جناب فنانس نہیں ہیں۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں یقین دہانی چاہتا ہوں کہ 2000-1999 میں یہ مکمل ہوگا؟
جناب پریذائٹنگ آفیسر، وزیر بجلی۔

جناب گوہر ایوب خان، جناب چیئرمین، پچھلے پانچ سات سالوں کی جتنی ongoing schemes/projects ہیں، میری پوری کوشش ہوگی کہ تے پروجیکٹس کو روک کر انہیں مکمل کروں، نئے کو take up ہی نہ کروں اور پرانے مکمل کروں۔ میرے خیال میں یہ بھی کافی achievement ہوگی۔ میں اس طرف جانے کی کوشش کروں گا اور ان پروجیکٹس کو مکمل کروں گا کیونکہ اگر یہ مکمل نہ ہوتے تو ان پروجیکٹس کا میٹریل چوری ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا اور ان کی دوبارہ maintenance پر ڈبل خرچہ آجائے گا۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر۔ مسٹر اکرم شاہ خان۔

جناب اکرم شاہ خان۔ جناب چیئرمین، جواب میں لکھا گیا ہے کہ ایک سال میں مکمل ہو جائے گا اگر حکومت پاکستان اور بلوچستان کی حکومت چار سو بیٹھائیس ملین روپے دے دیں۔ تو بیسہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ حکومت بلوچستان پیسے نہیں دے گی۔ میرا وزیر موصوف سے یہ سوال ہے کہ اس کا متبادل کچھ ہے؟ کیونکہ اگر یہ پیسے نہیں ملیں گے تو یہ کام نہیں ہوگا۔ کیا واپڈا کے ذریعے یہ کوئی گنجائش نکال سکیں گے تاکہ یہ کام مکمل ہو جائے؟

جناب پریڈائیڈنگ آفیسر۔ منسٹر فار پاور۔

جناب گوہر ایوب خان۔ جناب چیئرمین! میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ واہڈا نے جو پیسے دینے تھے وہ ہم سو فیصد خرچ کر چکے ہیں۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان اور بلوچستان گورنمنٹ نے یہ پیسے دینے ہیں اور یہ فیصد کیا گیا تھا کہ یہ ratio ہوگا۔ گورنمنٹ آف بلوچستان کو میں یہ تجویز کرتا ہوں اور چیف منسٹر کو میں خود بھی خط لکھ دوں گا کہ وہ Government of Pakistan کو approach کرے، فنانس منسٹری کو کرے، پرائم منسٹر کو کرے کہ ہماری توفیق نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے ہیں، یہ پروجیکٹس خراب ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کو pick up کرے۔ I will support it۔

جناب پریڈائیڈنگ آفیسر۔ منسٹر سخی جان۔

حاجی سخی جان۔ جناب میرے بزرگ گوہر ایوب خان بیٹھے ہیں۔ وہ ہمارا بھئی کا مسئلہ حل کریں۔ میری باقی بات گھلا خراب ہونے کی وجہ سے جاوید عباسی بیان کریں گے۔

حاجی جاوید اقبال عباسی۔ جناب انہوں نے کہا ہے کہ ان کے علاقے میں بھئی کی پریشانی ہے اور اس مسئلے کے بارے میں گوہر ایوب صاحب جلتے ہیں تو مہربانی کر کے وہ مسئلہ حل کریں۔

جناب پریڈائیڈنگ آفیسر۔ وزیر پانی و بھئی۔

جناب گوہر ایوب خان۔ ضرور جناب۔ سینیٹر سخی جان اور دوسرے تمام معزز ممبران سینٹ قانا کے بھی مسائل حل کئے جائیں گے کیونکہ یہ ہمارا بڑا سٹریٹیجک ایریا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے develop ہو۔

جناب پریڈائیڈنگ آفیسر۔ جناب خدائے نور۔

جناب خدائے نور۔ جناب والا، گوہر ایوب خان نے ابھی ongoing projects کی بات کی ہے اور نئے اس وقت ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اگر ہم ongoing پر توجہ دیں تو پھر نئی سکیں یا بھئی گھر رہ جائیں گے۔ انہوں نے ایم این اے اور سینیٹروں کو 45 لاکھ روپے کے صوابدیدی فنڈ کا ایک پروگرام بھی بھیجا ہے جس میں ہم نے بہت سی new and ongoing

سکیمیں بھیجی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ واقعی مخلص ہیں تو کیا اس وقت وہ فنڈ ہے اور کیا اس کو ایسی سکیموں پر خرچ کیا جائے گا یا نہیں۔

جناب گوہر ایوب خان۔ جناب چیئرمین، فنڈز ہیں۔ 2.5 billion rupees کا نئے اور کچھ ongoing projects, rural electrification کے لئے ہے۔ اگر آج سینٹ کا اجلاس نہ ہوتا تو میں نے واہڈا کو ساڑھے گیارہ بجے بلایا ہوا تھا۔ اس پر پروگریس معلوم کرنی تھی کہ کتنا کام ہوا ہے۔ اس وقت پاکستان میں دیہات کی ongoing اسکیمیں جن کو مکمل کرنا ہے وہ چار ہزار ایک سو تیرہ ہیں اور اس پر خرچہ تقریباً 1.8 billion روپے اٹھے گا۔ ہم ongoing کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔

جناب پریذائڈنگ آفیسر۔ ان کا غالباً سوال یہ تھا کہ وہ رقم جو ایم این اے یا سینیٹرز کو دی گئی ہے وہ اس پر لگا سکتے ہیں۔

جناب گوہر ایوب خان۔ جی میں اسی پر آ رہا ہوں۔ سینیٹر صاحب یہ بھی دیکھیں کہ previously تین سال بیٹھنے پارٹی کی حکومت تھی، اپوزیشن کو کچھ نہیں دیا گیا تھا۔ اس دفعہ میں نے ہر معزز ممبرز سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے by name بے نظیر بھٹو ہوں، بیگم بھٹو ہوں، اعتراف ہوں، آصف علی زرداری ہوں سب کو خط لکھے ہیں کہ یہ فنڈز ہیں آپ کے لئے اور ہم استعمال کریں گے on going schemes اور نئی schemes پر۔

Mr. Presiding Officer: Mr. Asif Ali Zardari.

Mr. Asif Ali Zardari: Sir, just for the information of the Minister, I have not received the letter. I presume he does not know my address because I have got three addresses; Central Jail Karachi, Central Jail Lahore, Central Jail Rawalpindi. I have not received your letter Gohar sahib. I would be obliged if it is sent to the Senate, I may probably receive it here.

جناب پریذائڈنگ آفیسر۔ جی منسٹر صاحب۔

جناب گوہر ایوب خان۔ جناب کئی دفعہ لوگ غلطی کرتے ہیں میرے مستقل

اڈریس رسکانہ پر بھیج دیتے ہیں خط۔ میں نے ان کے مستقل اڈریس پر خط نہیں بھیجا جی۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر۔ لیکن personally ان کو deliver فرمائیے گا۔ Minister

for Power.

جناب گوہر ایوب خان۔ جی جناب۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر۔ مہربانی کر کے ان کو خط اگر نہیں ملا تو ان کو

بھیجا دیجئے۔

Mr. Gohar Ayub Khan: I will give it to him tomorrow.

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ۔ جناب والا! میرا ایک ضمنی سوال ہے ایک۔

جناب پریذائٹنگ آفیسر۔ جی بلوچ صاحب۔

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ۔ میرا وزیر موصوف سے ضمنی سوال یہ ہے جناب کہ یہ

چوالیس کروڑ صرف ٹرانسمیشن لائن کے لئے درکار ہیں اور یہ حقیقت ہے جناب والا! کہ یہ لہنی پاور پلانٹ نامکمل ہے۔ چونکہ دوسرا phase اس کا شروع ہو نہیں سکتا چونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں اب کوئی لوگ آ نہیں رہے ہیں۔ اس کے لئے چوالیس کروڑ ہیں اور یہ پورے مکران ڈویژن کے لئے ٹرانسمیشن لائن بچھ بھی جائے تو لہنی پاور پلانٹ اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ وہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ second phase ہو نہیں سکتا ہے۔ جناب میرا وزیر صاحب سے ضمنی سوال یہ ہے کہ اگر آپ واقعی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے پورا مکران ڈویژن، آواران، جاؤو، بیسا، ژوب، ان سب کو بجلی ملے تو اس کے لئے میری ان سے یہ گزارش ہے کہ میری اس تجویز پر غور فرمائیں گے کہ نیشنل گرڈ اسٹیشن سے جب تک اس کو نہیں ملائیں گے یہ پاور کا جتنا بھی آپ نے خرچ کیا ہے یہ سارا ضائع جائے گا۔ یہ ٹرانسمیشن لائن جو بھی بچھائی گئی ہے یہ لوگ چوری کر کے لے جائیں گے۔ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہو گا۔ اس کے لئے وہ کوئی یقین دہانی دیں کہ کس طرح سے مکران ڈویژن کا بجلی کا مسئلہ حل کریں گے۔ یقین دہانی جناب۔

Mr. Presiding Officer: This is a suggestion and not a supplementary

question. Question hour is over now.

ڈاکٹر صفدر علی عباسی - جناب والا! صرف ایک سوال -

Mr. Presiding Officer: Yes allowed Question No.176

176. *Dr. Safdar Ali Abbasi: Will the Minister for Water and Power be pleased to state:

(a) the names of the IPPs who have started work on their project or have started power generation; and

(b) the names of the IPPs to whom notices of termination of contract were issued by the present government indicating also the reasons for issuing these notices?

Mr. Gohar Ayub Khan: (a) The names of the IPPs which are under various stages of construction activities are as follows:-

- (i) Altern Energy Limited.
- (ii) Davis Energen (Pvt) Limited.
- (iii) Eashatech (Pvt) Limited.
- (iv) Fauji Kabirwala Power Company Limited.
- (v) Habibullah Coastal Power (Pvt) Limited.
- (vi) Japan Power Generation (Pvt) Limited.
- (vii) Liberty Power Project.
- (viii) Norther Electric Company Limited.
- (ix) Power Generation Systems Limited.
- (x) Rousch (Pakistan) Power Limited.
- (xi) Saba Power Company.
- (xii) Sabah Shipyard Pakistan Limited.
- (xiii) Southern Electric Power Company Limited.

(xiv) Uch Power Limited.

In addition to the above the following IPPs are generating power and supplying to their respective grid stations:

(i) AES Lalpir Limited.

(ii) AES Pak Gen. (Pvt) Company.

(iii) Gul Ahmed Energy Limited.

(iv) Kohinoor Energy Limited.

(v) Tapal Energy Limited.

(vi) Hub Power Project.

(b) The Notices of Intent to Terminate (NIT) Termination Notices

were issued to the following companies:-

<u>Projects</u>	<u>Notice</u>	<u>Reason</u>
AES Lalpir Limited	(NIT)	Due to corruption
AES Pak Gen. (Pvt) Company	(NIT)	-do-
Habibullah Coastal Power (Pvt) Limited	(NIT)	-do-
Kohinoor Energy Limited	(NIT)	-do-
Power Generation Systems Limited	(NIT)	Progress slow
Saba Power Company	(NIT)	Due to corruption
Sabah Shipyard Pakistan Limited	(Termination)	Progress slow
Southern Electric Power Company Limited	(Termination)	Due to corruption
Uch Power Limited	(NIT)	-do-

Mr. Presiding Officer: Any supplementary please?

ڈاکٹر صفدر علی عباسی - جناب میرا سوال independent power producers

کے بارے میں تھا۔ گو کہ مجھے منسٹر فار واٹر سے کوئی ذاتی طور پر کلمہ نہیں ہے۔ چونکہ He has

always exercised restraint in what he is talking about. لیکن جناب ان کا ایک احتساب
 بورو ہے۔ احتساب بورو اور وزیر اعظم صاحب نے ایک continuous campaign چلائی اور اس
 کے جواب میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم نے notices issue کیے تھے کچھ private power
 producers کو اور اس میں یہ reason دی گئی ہے due to corruption

(اس دوران پریذائڈنگ آفیسر صاحب کی جگہ پر جناب چیئرمین، جناب وسیم سجاد صاحب
 کرسی صدارت پر متمکن ہوئے)

جناب چیئرمین - جی جناب ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب -

ڈاکٹر صفدر علی عباسی - جناب میں اپنا سوال repeat کر رہا ہوں -

جناب چیئرمین - جی جی فرمائیے جی -

ڈاکٹر صفدر علی عباسی - جناب میرا سوال 176 ہے جناب - میرا سوال تھا

independent power producers کے بارے میں

Mr. Chairman: Is this a point of order or it is a supplementary?

ڈاکٹر صفدر علی عباسی - ضمنی سوال ہے جناب -

جناب چیئرمین - سنا تھا کہ پریذائڈنگ آفیسر کہہ رہے تھے کہ Question Hour is over.

ڈاکٹر صفدر علی عباسی - جناب میری special request پر یہ ایک سوال تھا -

جناب چیئرمین - کون سا نمبر ہے -

ڈاکٹر صفدر علی عباسی - 176

جناب چیئرمین - Ok جی 176

ڈاکٹر صفدر علی عباسی - جناب میرا سوال تھا independent power producers

کے بارے میں، میں نے جناب یہ کہا ہے کہ مجھے منسٹر صاحب کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی جھگڑا نہیں

ہے because he has always exercised restraint while talking about his Ministry.

لیکن ان کا ایک احتساب بورو ہے - وزیر اعظم سیکرٹریٹ نے ایک continuous campaign

چلائى IPPs کے issue پر اور ان کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم نے notices issue کیے تھے intending to terminate اور اس میں reasons انہوں نے یہ دی ہیں وہ تقریباً سات پاور کمپنیز کی کہ جی that was due to corruption. اب میری اطلاع کے مطابق یہ notices جو تھے which were issued due to corruption, have been withdrawn. تو کیا میں justified ہوں یہ assume کرنے میں کہ جی وہ جو corruption کا element تھا، جو میڈیا ٹرائیل چلایا گیا، جو campaign چلائى گئی وہ غلط تھی۔ اب ان میں سے اکثر نے پاور جبرین شروع بھی کر دی ہے اور واپڈا ان سے بجلی خرید بھی رہا ہے۔ کیا میں assume کروں کہ جی اب وہ campaign جو تھی وہ غلط تھی اور یہ ایک بے بنیاد campaign چلائى گئی۔

جناب چیئرمین - جی منسٹر فار واٹر اینڈ پاور۔

جناب گوہر ایوب خان۔ جناب چیئرمین صاحب! جن power companies کو

IPPs کو notices دیے گئے تھے for termination, based on some corruption allegations جب میں نے take over کی واٹر اینڈ پاور منسٹری تو میں نے two Committees بنا دیں۔ وہ جن کے اوپر charges تھے 'termination نوٹس تھے تاکہ corruption کو deal کیا جائے اور جن کے اوپر tariff reduction تھی وہ الگ کیا جائے کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا شائبہ نہیں for investigation of corruption اور یہ multi-national باہر ان کے کئی آفیسر ہیں۔ وہاں سے بھی ان کی مشینری import کی گئی subsequently ان کے notice to termination withdraw کئے گئے ہیں لیکن ان کے جو sponsors تھے یا world bank یا IMF یا حکومت کو بھی میں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم withdraw بھی کرتے ہیں تو حکومت کا right پھر بھی رہتا ہے کہ 20,25 سال بعد بھی اگر چتا چلے کہ کوئی corruption ہے۔

Government and - corruption ہے۔

Waipda reserves the right to again institute that, that is the legal thing, we can't forgive یہ کہنا کہ یہ چیز غلط تھی یہ نہیں۔ میں نے وہاں بھیج دیا ہے۔ وہاں سے مجھے رپورٹ نہیں آئی کیونکہ I said اگر یہ companies کہیں جاتی ہیں کہیں arbitration کے لئے یا international courts میں جاتی ہیں ' وہاں یہ ہو گا کہ I must as Minister have 100 percent, international courts میں جاتی ہیں تاکہ یہ 200 percent proof of corruption stand کر سکے۔ یہ نہیں

کہ وہاں سے ہم ناکام ہوں اور بعد میں جو damages ہم پر آئیں گے وہ حکومت پاکستان برداشت نہیں کر سکے گی۔ - Thank you Sir,

Mr. Chairman: Mr Raza Rabbani.

Mian Raza Rabbani: Mr. Chairman, I am thankful and I am again very grateful to the Honourable Minister for Water and Power. He is always very forthright and does not hold back things and from the statement of the Honourable Minister, it is abundantly clear that there was no sufficient evidence against the IPP's for corruption and due to which they could not be proceeded against. But Sir, throughout this entire process, I would like to ask the honourable Minister that as has been pointed out that on 28-6-1998 the notices were issued to these either IPP's . Sir, after that the Director of Hubco was arrested on 28-8-1998. Two Malaysian and Italian nationals , experts of the IPPs were arrested . Mr Farooq Hassan made a statement, wrote a letter infact to the Prime Minister , stating that he has been tortured by the the Chairman of the Ehtesab Cell and that is published in the Newspapers and that he was asked to make a false statement of having given kickbacks to the IPPs and to Senator Zardari which he denied.

I would now like to ask the honourable Minister , is it not a fact that due to this action of the Ehtasab Bureau , Pakistan had to suffer internationally for the simple reason (a) that the investments shied away because of the treatment being meted out to foreign nationals and Pakistan descending from foreign contracts? (b) is it also not a fact that on 15-10-1998 the United Kingdom warned the Pakistan Government and gave a 13 days notice on the question of Hubco? Is it also not a fact that on 16-10-1998 the Common Wealth and the British Government both together expressed their deep concern on the Hubco project and the manner in

which it was being handled by the Ehtasab Bureau and also by the United States? And is it also not a fact that in the latest report of the U.S. state department the IPPs question is figuring prominently?

Mr. Chairman: Minister for Water and Power

Mr Gohar Ayub Khan : Mr. Chairman Sahib, as far as various Governments and various companies are concerned, although they have been bringing this to the notice that as a result of this foreign investment Pakistan could suffer. Possibly, that hold some grounds but we are now reversing as much as possible. I am improving the whole situation, with the result that certain agreements with IPPs that had been served letters of termination. Some in which the tariff had to be reduced or negotiated, that is now coming to a mutually acceptable head and should be solved in the next two weeks, very soon. Similarly, of Hubco also there are positive indications that we are moving in the right direction sir. I and particularly the Government and the Prime Minister wants to settle this issue as soon as possible in a manner in which Pakistan does not suffer and in which foreign investment also does not suffer in Pakistan. Thank you.

Mr. Chairman: Yes Mr. Zardari.

Mr. Asif Ali Zardari: Mr. Chairman, thank you very much. with your blessings, I would like to inform the minister that whenever there is a campaign launched or an allegation made, the country as a whole suffers, the consequences. For example in the case of the IPPs and Hubco, there were 32 banks who were the lenders and were involved. All those 32 banks, their principal offices, their international lending agencies received a message that they could suffer from this kind of campaign, this kind of malicious content. I have lost the

most. I am the one whose name has been taken everywhere and maligned with regard to the power projects. So whatever the situation might be, I am fighting my cases through the Pakistani Courts. At the moment, I am not in a position to go internationally to courts and fight myself there. I however put the minister on notice that "Inshallah" when time does allow and God willing, I intend to sue the lot of them, including the present regime plus the IPPs for not coming up forth rightly to defend me.

Mr. Chairman: O. K. Mr. Gohar Ayub Khan.

Mr. Gohar Ayub Khan: Mr. Chairman, that is constitutional right of the honourable Senator to do or not to do but this thing, I think, I am quite convinced that possibly my name will not be on that list. Thank you sir.

جناب چیئر مین۔ جی سوال نمبر 177 جناب ڈاکٹر عبدالحی بلوچ۔

177. *Dr. Abdul Hayee Baloch: Will the Minister for Water and Power be pleased to state the amount spent under the Scarp Programme since 1990 with province-wise break-up?

Mr. Gohar Ayub Khan: The Province-wise amount spent during 7/90 to 6/98 WAPDA under SCARP is given below:-

		<u>Rs. in Million</u>
<u>Province</u>		<u>Amount</u>
N.W.F.P.	=	5,707
Sindh	=	19,211
Punjab	=	11,045
Grand Total:	=	35,963

جناب چیئرمین۔ ضمنی سوال ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ۔

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ۔ میرا وزیر موصوف سے ضمنی سوال یہ ہے کہ جواب میں دیا ہے کہ یہ province wise SCARPs یعنی سیم و تصور کا ادارہ ہے۔ میں نے صرف آٹھ سال کا province wise خرچ پوچھا۔ آپ دیکھیں کہ 570 کروڑ مہتواخواہ صوبے میں ' سندھ میں 1921 کروڑ، پنجاب میں تقریباً 1100 کروڑ۔ یہاں پر اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں ' ایک روپیہ بھی بلوچستان کے لئے نہیں دیا گیا۔

جناب چیئرمین۔ یہ SCARP کیا ہوتا ہے؟

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ۔ جناب یہ سیم تصور کنٹرول کرنے کا ایک ادارہ ہے۔

Salinity Control Rehabilitation Programme ہوتا ہے۔

جناب چیئرمین۔ کیا بلوچستان میں salinity ہے وہاں تو پانی ہی نہیں ہے۔ وہاں

کیا salinity ہو گی۔

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ ہمارے پاس صرف drainage

کے علاوہ جہاں تصور بہت سیم ہٹ فیڈر کی وجہ سے ہے وہ بھی نا مکمل ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ پانی نکالنے کا ہے۔ پانی کو لانے کا ہے۔ میں نے ضمنی سوال اس لئے کیا کہ اس میں اربوں روپیہ سندھ، پنجاب اور مہتواخواہ پر خرچ کیے جا چکے ہیں اور ایک روپیہ بھی بلوچستان کو نہیں دیا گیا ہے۔ ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ جتنا ہمارا حصہ بنتا ہے ' ماضی سے لے کر اب تک ' جو ہمیں اس کام کے تحت نہیں دیا گیا ہے وہ ہمیں ملے اور ہمارے لئے جو پانی نکالنے کا بندوبست ہے اس کے لئے استعمال ہو ' کچھی کینال کے لئے استعمال ہو ' میرانی ڈیم کے لئے استعمال ہو ' بینگول ڈیم کے لئے استعمال ہو۔ ہمارے لئے تو پانی جمع کرنے کا مسئلہ ہے۔

جناب چیئرمین۔ SCARP کا مسئلہ تو نہیں ہے یعنی وہاں salinity تو ہے ہی

نہیں۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ salinity control کا پیسہ دیا جائے۔ وہاں پر تو salinity نہیں ہے۔

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ۔ جناب میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پنجاب میں ہے خراب زمین

کو ٹھیک کرنے کا ادارہ۔ ہمارے پاس virgin land ہے۔ virgin land پر جو پانی کے ذرائع ہیں

اس پر یہ پیسہ خرچ کریں۔ drainage کو مکمل کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں۔

جناب چیئرمین۔ ٹھیک ہے۔ جی جناب گوہر ایوب صاحب۔

جناب گوہر ایوب خان۔ جناب چیئرمین صاحب! جو سینئر جی صاحب نے کہا یہی سوال میں نے اپنی منسٹری سے کیا ہے۔ میں نے کہا دکھیں یہ تمام provinces میں اتنا پیسہ جا رہا ہے اور بلوچستان میں نہیں جا رہا تو overall ان کی percentage population of division funds کی بنتی ہے اس کو کہیں اور سے پورا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب supposing پنجاب میں ریلوے سٹم ہے ' فرٹیر میں 190,192 کلو میٹر ریلوے لائن ہے اور کچھ اکھاڑ رہے ہیں یا استعمال نہیں کر رہے۔ اگر ایک صوبے میں تمام ریلوے سٹم improve ہوتا رہے ' دوسرے میں کچھ نہ ہو یا اکھاڑتے جائیں تو وہ محرومی سامنے ضرور آئے گی۔ I fully agree with the Doctor sahib۔ تو اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تین صوبوں میں پیسہ جا رہا ہے لیکن correspondingly اگر water logging نہیں تو کسی اور جگہ ہم اس کو استعمال کر لیں گے۔

جناب چیئرمین۔ اگر you can provide water to Balochistan آپ کا یہ سارا food shortage کا مسئلہ حل ہو جائے۔ there is so much of land but it needs water

جناب گوہر ایوب خان۔ کریں گے انشاء اللہ۔

جناب چیئرمین۔ جی جناب خدائے نور صاحب۔

جناب خدائے نور۔ بڑی مہربانی جناب چیئرمین یہ معاملہ ختم ہو گیا؟

جناب چیئرمین۔ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ Ok this is over جی Nisar Muhammad

Khan is on a point of order پہلے ان کی بات سن لیں آپ لوگ تو روز lay کرتے ہیں۔

جناب خدائے نور۔ جناب میں پہلے کھڑا ہو گیا تھا۔

جناب چیئرمین۔ اس کے بعد آپ کی باری ہے۔ جی نثار خان صاحب کیونکہ یہ کبھی کبھی بات کرتے ہیں۔

جناب نثار محمد خان۔ شکر یہ جناب چیئرمین صاحب۔ اس ہاؤس میں بار بار جی صاحب نے

بھی کہا کہ صوبہ پنجتو نخواہ۔ یہ پنجتو نخواہ کے معنی میں جانا چاہتا ہوں کہ اس کے معنی کیا ہیں؟

جناب چیئر مین۔ جی مٹ صاحب۔

جناب بشیر احمد مٹ۔ اگر وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ پختون ہیں پھر میں پختونخواہ کا مطلب بتا دوں گا۔

جناب چیئر مین۔ پختون کا مطلب ایک انگریز Halis kero نے لکھا کہ یہ لفظ پشت سے آیا ہے۔ پشتون سے پختون بنا ہے۔ I don't know غلط ہے یا صحیح ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ پہاڑ کی پشت پر رستے تھے۔

جناب بشیر احمد مٹ۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دے دیں پھر میں بتا دوں گا۔

جناب چیئر مین۔ جی۔

جناب نثار محمد خان۔ جی میں بتا رہا ہوں جی کہ پختون کے معنی ہیں "پ" برائے پارپت "خ" ہے جی برائے گڑا اور اس طرح زیارت وغیرہ۔ جی اب خواہ کے معنی یہ بتائیں۔

جناب بشیر احمد مٹ۔ خواہ کا مطلب ہے دل۔ پختونوں کا دل heart land جس کو کہتے ہیں 'انگریزی سمجھتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں تو یہ پختونوں کے دل کی جو زمین ہے which is their original habitat

جناب چیئر مین۔ پلیس جی مسند حل ہو گیا۔ جی خدائے نور صاحب۔ جی جھگڑا صاحب۔

جناب اقبال ظفر جھگڑا۔ جناب یہاں آپ نے ruling دی تھی کہ اس کو پھر نہیں دہرانا چاہیے۔

جناب چیئر مین۔ جی جناب خدائے نور صاحب فرمائیے۔

جناب خدائے نور۔ میں جناب ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اگر وٹو صاحب اس کو سن لیں۔

جناب چیئر مین۔ جی وٹو صاحب سنیں۔

جناب خدائے نور۔ یہ دراصل ہے PIA سے یا شاید خاقان عباسی صاحب سے متعلق

لیکن وہ نہیں ہیں۔ وٹو صاحب اگر ان تک پہنچا دیں تو بڑی مہربانی ہو گی ان کی۔ یہ کوئی ایسی ہنگامہ خیز بات نہیں ہے۔ میں ابھی PIA سے آ رہا تھا۔ ان کا ایک رسالہ ہے "ہمفر"۔ اس کے شروع کے صفحہ پر شاید خاقان عباسی صاحب کی تصویر بھی ہے اور اس میں Province wise ہر ایک کی detail دی ہوئی ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس میں جو بلوچستان کی spelling انہوں نے وہاں لکھا ہے Baluchistan جب کے اس کے لئے 1989 میں Government of Balochistan نے ایک Notification جاری کیا تھا کہ یہ spelling جو ہیں "u" نہیں بلکہ یہاں "O" ہے Balochistan لیکن آج ابھی میں نے یہ رسالہ دیکھا، اس میں وہی U کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میرا یہی پوائنٹ آف آرڈر ہے کہ یہ ان کو correct کریں۔ یہ Balochistan ہے Baluchistan نہیں ہے Balu نہیں Balo ہے لفظ۔

جناب چیئرمین۔ جی اس کو ٹھیک کرائیں۔ یہ spelling ٹھیک کرائیں۔

جناب خدائے نور۔ یہ spelling جو ہے Notification کے ذریعے ہوا ہے۔

جناب چیئرمین۔ جی ٹھیک ہے۔ جناب رضا ربانی صاحب، آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ جی

وٹو صاحب۔

میاں محمد یسین خان وٹو۔ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے یہ Article 1 کے Clause 2

AB جو ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ (A) The territory of Pakistan shall comprise Provinces of Balochistan تو یہ جو spelling یہاں دیئے ہوئے ہیں۔

جناب چیئرمین۔ تو اس طرح کریں کہ بلوچستان کے spelling جو ہوتے ہیں الفاظ

یا تلفظ کے لحاظ سے ٹھیک کرا دیں۔ Balochistan ہے balu نہیں ہے۔ آئندہ شاید خاقان عباسی صاحب جہاں بات کریں تو وہ Baluch نہ کہیں Baloch کہیں۔

میاں محمد یسین خان وٹو۔ تلفظ کے بارے میں کریں گے جی۔

جناب خدائے نور۔ وٹو صاحب بات اتنی نہیں ہے صرف ان کو کہیں تلفظ صحیح کریں۔

جناب چیئرمین۔ Baloch ہونا چاہیئے Baluch نہیں۔ جی جناب رضا ربانی صاحب۔

ڈاکٹر جمیل الدین عالی۔ جناب والا! آپ ایک دن اس کے لئے مخصوص کر لیں جو

ظلمی املا کی اور تنظیلات کی ہوتی ہے وہ شاید ریکارڈ پر آ جاتی ہے۔ سندھ کی املا بھی غلط کی جاتی ہے اور پھر تنظی بھی غلط کیا جاتا ہے۔

جناب چیئرمین۔ بہتر ہے اس کو کمیٹی میں discuss کر لیں کہ کیا کس کا تنظی

کرنا ہے۔ It ends the Question Hour

178. *Mr. Haji Gul Afridi: Will the Minister for Housing and Works be pleased to state the particulars of the officers approve by the Out of Turn Allotment Committee (OOTAC) for allotment of Category-III, houses in its meeting held on 28th January 1999?

Syed. Asghar Ali Shah: The requisite information alongwith the particulars of the Government Servants whose names have been approved by the OOTAC-I held on 28-1-1999 for cat. III Government accommodation is placed at Annex-A.

(Annexure has been placed on the table of the House and a copy has also been provided to the Member)

179. *Mr. Ali Nawaz Shah: Will the Minister for Water and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to install a Grid Station at Mirwah Gorchani Taulka Mirpur Khas, if so, its details?

Mr. Gohar Ayub Khan: 132 KV grid station at Mirwah Gorchani with installation of 1 x 13 MVA, 132/11 KV transformer is included in the 5th STG Programme. 80% of the civil works is are complete and the overall progress of the work is 32%. Due to non-availability of funds the work has been suspended. If the funds are made available the grid station can be commissioned by June, 2000.

180. *Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for Housing and

Works be pleased to state:

(a) the number of Cat. V flats in Sector I-9/4, Islamabad in illegal occupation of the police officials; and

(b) the time by which these flats will be got vacated?

Syed. Asghar Ali Shah: (a) 9 List placed at Annex-A.

(b) Estate Office is trying to get the quarters vacated from them and the matter has been taken up with the police authorities.

Annex A

LIST OF GOVT. OWNED QUARTERS (CAT.V) WHICH HAVE BEEN UNAUTHORISEDLY OCCUPIED BY POLICE OFFICIALS AFTER BREAKING THE LOCKS IN SECTOR I-9/4 ISLAMABAD.

Sl.No.	quarters No.	Name of Unauthorised occupant.	Designation
1.	Qr. No. 27/7-Cat.V I-9/4	Mr. Abdul Mannan	Constable
2.	Qr. No. 10/12-Cat.V I-9/4	Mian Khan	Constable
3.	Qr. No. 46/16-Cat.V I-9/4	Mohammad Ejaz	Constable
4.	Qr. No. 54/8-Cat.V I-9/4	Mohammad Iqbal	Constable
5.	Qr. No. 3/15-Cat.V I-9/4	MK Iqbal	Constable
6.	Qr. No. 29/7-Cat.V I-9/4	Niamat Ali	Constable
7.	Qr. No. 41/12-Cat.V I-9/4	Ch. Fayyaz	Constable
8.	Qr. No. 34/7-Cat.V I-9/4	Abdul Sattar Baig	Constable
9.	Qr. No. 42/6-Cat.V I-9/4	Mr. Fayyaz Ghuman	Constable.

LIST OF GOVT. OWNED QUARTER (CAT. V) WHICH HAVE BEEN
UNAUTHORISEDLY OCCUPIED BY POLICE OFFICIALS AFTER
BREAKING THE LOCKS IN SECTOR I-9/4 ISLAMABAD.

S. NO.	Quarters No.	Name of unauthorised occupant	Designation
1.	Qr. No. 27/7- Cat. V I-9/4	Mr. Abdul Mannan	Constable
2.	Qr. No. 18/12- Cat. V I-9/4	Mian Khan	Constable
3.	Qr. No. 46/16-Cat. V I-9/4	Kohammad Ejaz	Constable
4.	Qr. No. 54/8-Cat. V I-9/4	Mohammad Iqbal	Constable
5.	Qr. No. 3/15-Cat. V I-9/4	Mr. Iqbal	Constable
6.	Qr. No. 29/7- Cat. V I-9/4	Niamat Ali	Constable
7.	Qr. No. 41/12- Cat. V I-9/4	Ch. Fayyaz	Constable
8.	Qr. No. 34/7-Cat. V I-9/4	Abdul Sattar Baig	Constable
9.	Qr. No. 42/6- Cat. V I-9/4	Mr. Fayyaz Ghuman	Constable

181. *Mr. Muhammad Akram Zaki: Will the Minister for Water and Power be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the residents of village Kurzada, Charian, Tehsil Gujar Khan District Rawalpindi are facing great inconvenience due to the low voltage of power in the area; and

(b) if the answer to above "a" be is the affirmative, whether there is any proposal under consideration for the installation of an additional transformer to supply required voltage of power, if so, when, if not, the reasons thereof?

Mr. Gohar Ayub Khan: (a) No, it is not a fact. The existing 100 KVA transformer is sufficient to meet the requirement therefore installation of an additional transformer in the said village is not justified.

(b) Does not apply.

182. *Dr. Safdar Ali Abbasi: Will the Minister for Water and Power be pleased to state:

(a) the names of villages in District Larkana approved for electrification during the last regime of PPP which are yet to be energised and where more than 50% work has been completed; and

(b) the total amount estimated for electrification of each of the said village?

Mr. Gohar Ayub Khan: (a) The names of villages approved for electrification in District Larkana during last PPP regime where more than 50% work has been completed are shown in the attached list as Annex-A.

(b) The total amount estimated for electrification of each village is given in the above list which also indicates the funds required for completion of each village.

Annexur-A

(Rs. in Million)

Sr. No.	Name of Village	District	Est. Cost Rs. in Million	%age completion	Funds required for completion
1.	Ladho Junejo	Larkana	0.388	80	0.272
2.	Pandhi Palhro	Larkana	0.480	80	0.336
3.	Hajo Ali Dost Brohi	Larkana	1.038	60	0.727
4.	Zaman Khan Broti	Larkana	0.818	60	0.577
5.	Allahabad	Larkana	0.286	60	0.200
6.	Jhangi Khan Sunari	Larkana	0.679	80	0.475

7.	Roshanabad	Larkana	0.230	80	0.161
8.	Mazhar Khan Brohi	Larkana	0.420	60	0.294
9.	Rasool Bux Brohi	Larkana	1.242	60	0.870
10.	Rahim Bux Brohi	Larkana	0.348	80	0.247
11.	Siyal Magsi	Larkana	0.787	60	0.550

جناب چیئرمین، جی رضا ربانی صاحب۔

Mian Raza Rabbani: Mr. Chairman, I am grateful and I will just seek a little bit of indulgence because we have agreed on the proceedings of the day.

Mr. Chairman: What! Have you agreed upon today.

آج کیا کرتا ہے۔

یہ we will get that Bill through ہے میاں رضا ربانی۔ جناب والا! ایک بل ہے

It is Item No.4 that we will get through. ہے Companies کا بل ہے

Mr. Chairman: I am happy

کہ آپ کے دوبارہ روابط قائم ہو چکے ہیں۔

POINT OF ORDER Re: DETERIORATING HUMAN RIGHTS

SITUATION IN PAKISTAN.

Mian Raza Rabbani: Sir, now I would like to draw your attention to a very serious point of order that we have repeatedly been saying that this government has failed in maintaining law and order throughout the country. The event of yesterday in which a Parliamentary Secretary of the Punjab Government was assassinated is yet another proof of the fact that there is a total break down and collapse of law and order in the country and that this government can no

longer now function in accordance with the Constitution of Pakistan and therefore, it would be in the fitness of things and in democratic tradition if the government, which has lost the moral authority to rule, would resign.

I would also at this stage draw your attention to a document which has been released by the United States' Department of State and which is the Pakistan based report on human rights practices for 1998, released by the Bureau of Democracy, Human Rights Labour on 26th February, 1999. This sir is a document released by the State Department of the United States about the affairs of the human rights in Pakistan. It is a document which spreads over 32 voluminous pages and it has fixed various sections in which it has torn to shred, it has literally torn to shred the record of this government vis-a-vis human right for the year 1998. I would just read to you line one of paragraph 2, which says, "The government's human rights record remained poor with serious problems in several areas" and sir, we have been from this government, a great deal about the extra-judicial killings that they have alleged which we have denied continuously on the floor of this House during our tenure of government. I would draw your attention sir, to section 1 of this report which says, "Respect for human rights, respect for the integrity of the person including freedom" and I have just read out a couple of lines from it sir and it says,

"The extra judicial killings of criminal suspects often in the form of deaths in police custody or staged encounters, in which police shoots and kills the suspects is common. In Punjab a police crack down on notorious criminals resulted in scores of extra judicial killings, specially in staged encounters around Lahore."

Now, after indulging in extra judicial killings also, this government has failed to control the Law and Order situation and today a situation persists in the country and particularly in the province of Punjab, where a parliamentary secretary of ruling government is shot in broad day light and is assassinated. Where is the moral authority for that government to continue? Where is the moral authority for the Punjab Assembly to continue when in juxtaposition you have the province of Sindh, which has been subjected to Governor's rule. You have the province of Sindh, in which the provincial Assembly has been prevented from functioning because of the Law and Order situation and when I have read this sir, I have just read the tip of the iceberg of what they have said about Punjab and the Law and Order situation in Punjab.

Now, I know there is the constraint of time, so let me quickly skip to another aspect of this report. For the last so many days and even today, it is most unfortunate that even today, after what was discussed on the floor of this House today, the advertisements continue to appear in the newspapers by an entity, by the name of Ehtesab Bureau, which is a non entity in the eyes of the law. For the simple reason sir, that the word "Ehtesab" Bureau was brought in by way of an amending Ordinance and that Ordinance cease to hold the field on 3-6-1998, so, we are now back to the original Ehtesab Act, of 1997, which was given assent to by the President on the 31st and there is no Ehtesab Bureau in that.

So, an entity which does not exist is continuing to publish advertisements in the newspapers. But regardless of that, what does this report have to say about that entity and I read to you sir, from the preamble again just 4 or 5 lines and it goes on to say that, "the government has used the accountability process, which supposedly was designed to expose previous wrong doings,

recupe illgotten gains and restore public confidence in government institutions for political purposes, by harrasing and arresting a number of prominent politicians and bureaucrats connected with the main opposition party."

This is the report of the State department of the United States which says that, "the accountability process is being used by this government targeting the premier opposition party and for political purposes". Let me go a little further sir, and show you what it says. In Section(1) which I have just read out to you this is from section 1, that I am quoting, it says "the accountability commission established by the 1996-97 caretaker government has been over shadowed by an accountability Cell, headed by close associate of the Prime Minister Senator Saif-ur-Rehman. This Cell, ostensibly initiated to uncover corruption in an even handed manner, has conducted politically driven investigations and campaign of vilification against opposition politicians, senior civil servants and businessmen. These investigations are designed to extract evidence and in some cases televised confessions of alleged wrong doers. Authorities arrested and questioned the wife and daughter of Pakistan Steel Mill's Executive Usman Farooqi" and then it goes on and on. Sir, this is the record of this Government on human rights. This is the record and then it goes on further, it talks about wire tapping.....

جناب چیئر مین، وہ اخباروں میں آچکا ہے۔ اگر اس کو discuss کرنا ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ On a point of order آپ پوری تقریر نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ point کو highlight کر سکتے ہیں۔

میاں رضا ربانی، جناب طریقہ بالکل ہے لیکن the point is that ابھی گل کی جو debate ہے on the question of the Summit, that is also not going to take place because the House is being prorogued tomorrow.

Mr. Chairman: Since you have highlighted the points,

اب اس کو debate نہ بنائیں کہ یہی سارا دن چلتا رہے۔ بات ٹھیک ہوگئی ہے۔ جی راجہ ظفر الحق صاحب۔

راجہ محمد ظفر الحق: جناب چیئرمین! سینیٹر رہا رہا صاحب نے جس واقعہ کا ذکر کیا ہے جس میں غلام محمد سہاگ، ایم پی اے اور پارلیمانی سیکریٹری، حکومت پنجاب ان کو رات دس بجے کے بعد شہید کیا گیا۔ یہ ایک اتھارٹی افسوسناک واقعہ ہے اور کیونکہ وہ میرے قریبی دوست اور بھائیوں کی طرح تھے اس لئے ذاتی طور پر بھی مجھے اتھارٹی رنج ہے۔ جس طریقے سے ان کا قتل ہوا بلاشبہ یہ فرقہ وارانہ تشدد ہے۔ تقریباً 14, 15 سال پہلے پاکستان میں اس کی شروعات ہوئی اور یہ ابھی تک جاری ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حملے جو اس میں حدت موجود تھی 1995ء میں وہ اب نہیں رہی ہے لیکن اکا دکا واقعات کا ہونا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ اس کا سہارا بھی ہر لحاظ سے کیا جانا ضروری ہے۔ سینٹ نے اس بارے میں ایک قرارداد پر اس بھی منظور کی تھی کہ مزید اقدامات کرنے چاہئیں تاکہ اس پر صحیح طریقے سے قابو پایا جاسکے۔

جہاں تک Amnesty International کی رپورٹ کا تعلق ہے، ہر سال وہ رپورٹ شائع کرتے ہیں جیسے State Department نے کی ہے اور اس میں 129 countries کے بارے میں انہوں نے اپنی رپورٹ دی ہے۔ وہ کس پر base کرتے ہیں، کیا material ہوتا ہے؟ وہ پتا نہیں، بس وہ اتھی رپورٹ شائع کرتے ہیں۔ انہوں نے جو سب سے زیادہ chapter لکھے ہیں ان میں انہوں نے خود United States کو criticise کیا ہے۔ خود United States کو Amnesty International نے criticise کیا ہے human rights کے issue کے اوپر۔ اسی طریقے سے بیچار اور ممالک ہیں جن کو انہوں نے criticise کیا ہے۔ اس طرح کی رپورٹیں بالعموم one sided ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ ایک رواج چل پڑا ہے کہ جس کو کوئی چیز کرنی ہو تو وہ مختلف اداروں کو اپنے موقف بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ زیادتی ہوگئی ہے۔ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ ایک ایسا سلسلہ بھی چل نکلا ہے جیسے مجال کے طور پر انگلستان میں جو لوگ سیاسی پناہ حاصل کرتے ہیں وہ اپنے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر کسی ذریعے سے درج

کروا کر، پھر اس کو base بنا کر، وہاں سیاسی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس حکومت کے خلاف انہوں نے allegation لگا کر سیاسی پناہ حاصل کی ہوتی ہے، وہ حکومت بھی جلی جاتی ہے مگر وہ درخواستیں چلتی رہتی ہیں۔

اگر تو کوئی ایسا اس کا نظام ہو کہ وہ allegations جو ان تک پہنچتی ہیں وہ اس حکومت تک پہنچانی جائیں کہ اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے اور وہ اس کا جواب دیں اور پھر اس کے بعد اگر وہ کوئی راستہ اختیار کریں تو اس کی پھر بھی کوئی نہ کوئی authenticity بنتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پروس اخبارات میں کہ امریکہ کی وزیر خارجہ میڈیلین البرائٹ چین گئی تھیں۔ انہوں نے چین کو کہا کہ آپ کے ملک میں شہری آزادیوں کے بارے میں ہمیں یہ شکایات ہیں۔ انہوں نے یہی جواب دیا کہ شہری آزادیوں کے بارے میں ہمارا اپنا ایک نظام ہے۔ آپ کو فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہم اس بات کو کسی صورت بھی تسلیم کریں گے کہ کوئی اور ملک آکر ہمارے ملک کے اندرونی معاملات کے بارے میں ہمیں لیکچر دے۔ انہوں نے detail میں کسی بھی اس طرح کے معاملہ پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ میں مثال کے طور پر اس لئے quote کر رہا ہوں کہ مختلف حکومتوں کو اس بات کا سامنا ہے اور یہ آج کا نہیں ہے۔ یہ اس سے پہلے کا بھی ہے۔ مثال کے طور پر خود پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہر سال یہ رپورٹیں آیا کرتی تھیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی رپورٹ کے بارے میں۔

(مداخت)

راجہ محمد ظفر الحق، ہم پڑھا کرتے تھے لیکن ہم اس کو ایوان میں اٹھایا نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمیں اس کی value کا پتہ ہوتا تھا۔ میں نے کبھی نہیں اٹھایا۔

میاں رضا ربانی، آپ نے کبھی نہیں اٹھایا لیکن بھایا تو اٹھایا کرتے تھے۔

راجہ محمد ظفر الحق، اور کس نے اٹھایا، میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، اور کس نے اٹھایا۔

میاں رضا ربانی، نیشنل اسمبلی کا دو سال کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں۔

راجہ محمد ظفر الحق، وہاں کی بات اور ہے، میں سینٹ کی بات کر رہا ہوں۔

میاں رضا ربانی، یہاں پر آفتاب شیخ صاحب نے اٹھایا ہے، پروفیسر خورشید صاحب

اٹھاتے تھے۔

راجہ محمد ظفر الحق ، پروفیسر خورشید صاحب اب نہیں ہیں لیکن آفتاب صحیح موجود ہیں
اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ اب بھی own کریں گے جو واقعات پہلے ان کے ساتھ ہوئے ہیں۔

جناب چیئرمین ، لیکن میرے خیال میں پروفیسر خورشید صاحب کسی امریکن رپورٹ پر انحصار
کر کے کوئی پوائنٹ raise نہیں کریں گے۔ I do not think. ہر حال ان کا اپنا نقطہ نظر تھا۔

راجہ محمد ظفر الحق ، اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رپورٹیں ہوتی ہیں ، ان پر اس
نحاظ سے کبھی بھی rely نہیں کرنا چاہیئے۔ یہ one sided ہوتی ہیں۔ ان کا ایک اپنا نقطہ نظر
ہوتا ہے۔ ان کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے جس کے تحت یہ رپورٹیں شائع کی جاتی ہیں۔ مختلف ممالک
کو under pressure کرنے کے لئے۔ ان کا لیبیا کے بارے میں ، سوڈان کے بارے میں کیا رویہ
ہے۔ ایران کے بارے میں کیا رویہ ہے۔ دیگر ممالک جو ذرا سا بھی سر اٹھانے کی کوشش کریں
ان کے بارے میں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ اس ملک کے حالات کو میں اور آپ زیادہ بہتر سمجھتے
ہیں بجائے اس کے کہ کوئی امریکہ سے آکر ہمیں کہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس لئے یہ رپورٹ
قطعا ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر rely کر کے کوئی پالیسی وضع کر سکیں۔ ہم آپس میں بیٹھ کر
بات کریں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔

Leave applications. جی. O.K. جناب چیئرمین

LEAVE OF ABSENCE

جناب چیئرمین ، قاضی محمد انور صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر آج مورخہ 4
مارچ کے لئے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا آپ ان کی رخصت منظور کرتے ہیں؟
(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین ، جناب محمد رفیق رجوانہ صاحب ناگزیر وجوہات کی بنا پر یکم مارچ کو
اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے۔ اس لئے انہوں نے اس تاریخ کے لئے ایوان سے رخصت کی
درخواست کی ہے۔ کیا آپ ان کی رخصت منظور کرتے ہیں؟
(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین، تاج حیدر صاحب! بات ہوگئی ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں۔

جناب تاج حیدر، جناب چیئرمین، حکومت کا انتہائی افسوسناک رویہ ہے کیونکہ آج کی دنیا میں انسانی حقوق کسی ملک کا داخلی مسئلہ نہیں رہے۔ ہمارے خلاف Amnesty International, Asia Watch یا دیگر ادارے جو کچھ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان سے ہمیں ایڈمنسٹریشن چلانے میں بڑی مدد ملتی تھی۔ ان کے وفد آتے تھے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی اور باقاعدہ ایک منسٹری آف ہیومن رائٹس تشکیل دی گئی۔ سینیٹر اقبال حیدر اس کے انچارج تھے۔ پوری دنیا میں ہمیں مختلف فورم پر جا کر ان رپورٹوں کا جواب دینا پڑا۔ ایک دفعہ میں باہر جا رہا تھا، میں نے وزارت داخلہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں ڈی آئی جی کراچی کا کھٹا ہوا سٹیٹمنٹ نہیں پڑھوں گا اور ہم نے یہ arrangement کیا کہ Amnesty International کو اگر کوئی بھی شکایت موصول ہوتی ہے تو وہ فوراً فیکس کے ذریعے مجھے بھیجیں۔ ہم اس کو باقاعدہ گورنمنٹ کے ساتھ take up کیا کرتے تھے اور اس سلسلے میں ہفتے بھر میں Amnesty International کو رپورٹ واپس جاتی تھی۔ راجہ صاحب اور اس حکومت کا انسانی حقوق کے بارے میں جو رویہ ہے وہ نہ صرف ملک میں انسانی حقوق کے لئے بہت زیادہ disappointing ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس وقت انسانی حقوق پر جتنی حساس ہے یہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ It is very sensitive issue اور اگر اس قسم کے statements یہاں پر دینے جائیں گے تو اس سے پاکستان کے وقار اور international standing میں بہت کمی ہوگی۔ میں گزارش کروں گا کہ اس رویہ کو بدلا جائے۔

جناب چیئرمین، شکر یہ، جناب حاجی جاوید اقبال صاحب۔

حاجی جاوید اقبال عباسی، شکر یہ جناب چیئرمین! میرا پوائنٹ آؤٹ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں رستنوں والے غریب مزدوروں کو بے روزگار کیا ہے سینٹ کے کارخانوں نے۔ انہوں نے ریٹ 135 پر گس کیا تھا اور ایک دم انہوں نے میٹنگ کر کے 240 روپے ریٹ کر دیا پھر حکومت نے نوٹس دیا اور Monopoly Control Board کے چیئرمین نے اب فیصلہ کیا کہ یہ ریٹ فی بیگ 130 روپے رکھا جائے۔ اس کے باوجود کارخانہ دار اور بڑے بڑے مگر مجھ غریب لوگوں کا خون چوس رہے ہیں۔ وہ 240 روپے فی بیگ لے رہے ہیں۔

حکومت نے پہلے ہی فیصد کیا تھا اور وزیر موصوف یسین خان وٹو صاحب بیٹھے ہیں، میں آپ کے ذریعے حکومت کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو فیصد حکومت نے کیا ہے، ان کارخانے داروں کو پائند کریں کہ اس پر کاربند رہیں۔ انہوں نے اپنے طور پر 135 روپے ریٹ کیا تھا اور پھر خود میٹنگ کر کے 240 روپے کر دیا۔ حکومت نے ۱۳۰ روپے per bag rate مقرر کیا ہے لیکن اب بھی یہ ۲۳۰ پر مل رہا ہے۔ یہ پورے ۱۳ کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ غریب عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ اکثر مزدور اسی وجہ سے بے روزگار ہو رہے ہیں۔ میں حکومت کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اس پر فوری نوٹس لیا جائے اور کارخانہ داروں کو پائند کیا جائے کہ جو فیصد حکومت نے کیا ہے۔ 130 rupees per bag cement چھپنے کا، وہ اس ریٹ پر سینٹ بیچیں۔

جناب چیئر مین، جی منسٹر صاحب نوٹ کر لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سینٹ سستا کروائیں۔

میاں محمد یسین خان وٹو، جی میں نے نوٹ کر لیا ہے۔

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ، جناب میرا مجموعا سا point of order ہے۔

جناب چیئر مین، بس کریں point of order اب کچھ کام بھی کریں۔

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ، جناب مجموعا سا ہے۔

جناب چیئر مین، مجموعا ہے تو چلیں۔ ویسے آپ کا مجموعا ہوتا نہیں ہے۔

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ، آج بالکل مجموعا ہے۔

جناب چیئر مین، چلیں دیکھتے ہیں کہ کتنا لمبا ہے۔ آج گھڑی سے دیکھتے ہیں کہ کتنا

لمبا ہے آپ کا point of order۔

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ، جناب یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ گنے کے جو کاشتکار ہیں ان

کا مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ طوں والے ان کو پیسے نہیں دے رہے۔ کاشتکار 'زمیندار کے لئے'

خاص طور پر سندھ اور پنجاب میں 'یہ کافی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اس میں زیادہ تر ان زمیندار

لوگوں کا نام لیا جاتا ہے جو حکومت میں ہیں۔ مہند میرا یہ ہے کہ آپ دکھیں اگر آپ زراعت

کو ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے ٹھیک ہو گی، جب آپ ان کو معاوضہ نہیں دیں گے تو وہ

دوبارہ کیسے کاہت کریں گے۔ یہ ایک بہت دیرینہ مسئلہ ہے۔ پنجاب میں ان لوگوں نے روڈ بلاک

کی۔ بڑھائیں گیں۔ سندھ میں تو اکثر میں ایسا سنتا رہتا ہوں۔ اب لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ آئندہ کما کاشت ہی نہیں کریں گے۔ ممکن ہے ہر جگہ یہ مسئلہ ہو۔ میری ان سے التجا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پیداوار بڑھائیں اور آپ اسی گنے سے sugar بنا رہے ہیں۔ آپ اس پر منافع بھی کما رہے ہیں۔ آپ sugar بہت سے ممالک کو بھی بھیج رہے ہیں۔ ان تمام کاشتکاروں نے ' زمینداروں نے کیا جرم کیا ہے کہ طوں والے ابھی تک ان لوگوں کو ان کا معاوضہ نہیں ادا کر رہے۔ حکومت اس طرف کیوں توجہ نہیں دے رہی؟

جناب چیئرمین: جی یہ کہتے ہیں کہ توجہ دیں۔

میاں محمد یسین خان وٹو، جناب! اس سلسلے میں حکومت نے پہلے بھی کافی اقدامات کئے ہیں لیکن ابھی تک اگر کہیں کوئی دقت پیش آ رہی ہے کاشتکاروں کو تو میں متعلقہ وزیر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اس پر توجہ دیں۔

جناب چیئرمین، جناب سینٹ کے بارے میں بھی کچھ فرمائیں۔

میاں محمد یسین خان وٹو، سینٹ کے بارے میں بھی میں نے نوٹ کر لیا ہے۔

وہ اطلاع بھی میں انشاء اللہ concerned Ministry کو دے دوں گا۔

میاں رضا ربانی، جناب آج جنی صاحب کا point of order چھوٹا تھا۔

جناب چیئرمین: جی چھوٹا تھا I must say کہ جی واقعی we appreciate that ہم

اس کی قدر کرتے ہیں کہ آپ نے واقعی چھوٹا point of order پیش کیا اور مناسب اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ بات بھی ہو جائے اور کام بھی نکل جائے۔

میاں محمد یسین خان وٹو، جناب سارے دن کی اوسط پہلے کے برابر ہے۔

جناب چیئرمین: نہیں بہت اچھا کیا ہے انہوں نے۔ اچھا یہ بتائیں رضا صاحب item

No.3 جو ہے laying of the Ordinance اس کا کیا کریں؟

میاں رضا ربانی، جناب پھر اس پر لمبی بحث ہو جائے گی۔

جناب چیئرمین، نہیں دکھیں - Ordinance lay کرنا تو ایک ذمہ داری ہے۔ نہ اس

سے یہ valid ہو جائے گا۔ اگر invalid ہوتا ہے تو۔۔۔۔۔

میاں رضا ربانی، جناب اس پر لمبی بحث ہو گی۔ آپ اس کو بھجوز دیں اور چار پر آ جائیں۔

جناب چیئرمین، نہیں بحث کر لیں لیکن دکھیں Constitution یہ کہتا ہے کہ اجلاس جاری ہو تو lay کرو۔ یہ آپ کی سوت کے لئے ہے۔ it is for the Senate کہ آپ کے نوٹس میں آجاتا ہے۔

میاں رضا ربانی، جناب میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پر پھر لمبی بحث ہو جائے گی۔

Mr. Chairman: What I am saying is that it is an administrative thing. If it is invalid, it is invalid, the laying is simply an administrative act commanding by the Constitution

کہ جب issue ہو تو آپ کی اطلاع کے لئے آپ کے سامنے آجائے۔

Mian Raza Rabbani: Sir, we will take it up tomorrow then

کیونکہ اس پر لمبی بحث ہو جائے گی۔

جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذمہ داری ہے حکومت کی۔ اگر حکومت نہیں کرتی۔۔۔

میاں رضا ربانی، جناب اس پر اگر لمبی بحث ہو گئی تو پھر آج ان کا بل نہیں ہو گا۔

جناب چیئرمین، نہیں لمبی بحث بے شک کر لیں but اس کو اس نظریے سے سوچیں کہ ordinance lay کرنے سے ordinance valid نہیں ہو جاتا۔

Mian Raza Rabbani: I agree with you sir.

جناب چیئرمین، اور ordinance lay کرنے سے اچھا نہیں ہو جاتا۔ lay کرنا is simply ایک ذمہ داری ہے۔ responsibility ہے۔

Mian Raza Rabbani: Sir, I agree with you but our contention is going

to be that after the Supreme Court's judgement, why is not the Government withdrawing this Ordinance? Instead of getting it lapsed, it should withdraw the Ordinance.

جناب چیئرمین، دکھیں withdraw کرنے کے لئے بھی ایک نیا Ordinance ہو گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ جب issue ہو گا وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔

میاں رضا ربانی، جناب وہ آئے۔

جناب چیئرمین، نہیں اگر وہ withdraw بھی کرتے ہیں it does not mean you can just forget about this. This is an Ordinance which has been issued. It is a fact, it may be invalid.....

Mian Raza Rabbani: Sir, I agree with your point of view but I am saying that a lot of Senators who would like to speak on this, before the Ordinance is laid, so therefore we can keep this for tomorrow and we can do the legislation today.

جناب چیئرمین، یعنی جب laying ہوتی ہے۔ اس میں speaking کا کیا ہوتا ہے۔

Mian Raza Rabbani: Sir, normally so many ordinances have been laid, they have issued forty ordinances. They are talking about the mandate, they have issued forty ordinances.

Mr. Chairman: I am just telling you

کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ it is a constitutional requirement اس پر اگر آپ بحث کرتے ہیں تو بے شک کریں لیکن laying تو is an administrative act وہ تو ہونے دیں۔

میاں رضا ربانی، جب lay ہو گا تو اسی وقت بحث ہو گی۔

جناب چیئرمین، چلیں ٹھیک ہے۔

ڈاکٹر صدر علی عباسی، جناب میری عرض ہے کہ یہ حکومت ایک ہٹ دھرم حکومت ہے۔ ہم ان کی ہٹ دھرمی کے متعلق ان کے conscience کو بھنجوڑنا چاہتے ہیں۔ اس لئے ہماری آپ سے عرض ہے کہ یہاں پر کئی ordinances آئے۔ یہاں پر lay ہوئے اور ہم نے accept کئے۔

Mr. Chairman: I want to say on this that acceptance and non-acceptance

کی بات نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے کہ حکومت ordinance lay کرتی ہے، وہ غلط ہے، خراب ہے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ ordinance جب issue ہوتا ہے تو سینٹ کی اطلاع کے لئے I would say کہ اس کو table پر lay کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے issue کر دیا ہے۔ اس کے بعد سینٹ کے کچھ اختیارات ہو جاتے ہیں۔ It does not mean that ordinance lay کرنے سے اچھا ہو جاتا ہے، it does not mean that it is valid کہ یہ valid ہو جاتا ہے، 'it does not mean that if a certain ordinance has ultra vires' تو اس کی vires correct ہو جاتی ہیں۔ نہیں is just an information, which is the constitutional command that it should be laid. Once the government issues an ordinance, it should be done as soon as it is practicable.

Mian Raza Rabbani: Sir, our soul object is to demonstrate the continuous defiance of this government to the rulings of superior courts.

جناب چیئرمین، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا laying سے کیا تعلق ہے، laying is just کہ وہ table پر آ جائے گا۔

Mian Raza Rabbani: Sir, through this laying, we want to demonstrate that.

جناب چیئرمین، ٹھیک ہے جی، اگلا کون سا بل ہے۔ نمبر 4، جی اس کا motion move ہو چکا ہے، کوئی اس پر کچھ کہنا چاہیں گے۔ جی صلی وزیر صاحب بل کے بارے میں بتا دیں۔ جی وزیر صاحب۔

LEGISLATIVE BUSINESS

DISCUSSION ON BILL Re: THE COMPANIES (Amendment)

BILL, 1999.

Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo: Sir, I will just explain the purpose of this Bill. Sir, the purpose of this Bill is to amend the Companies Ordinance, 1984 with a view to improve the Ordinance for healthy growth of corporate enterprises and to remove certain practical difficulties experienced during the period of its enforcement. The Bill focuses mainly on full disclosure of companies' matters in the directors' report, qualification of auditors for private companies and publication of prospectus in abridged form. Sir, this Bill was sent to the Standing Committee and Standing Committee has unanimously recommended this Bill. So, I request the House kindly to pass this Bill.

Mr. Chairman: Yes, Dr. Safdar Abbasi Sahib.

Dr. Safdar Ali Abbasi: Sir, basically I was the Chairman of this Committee which has recommended this Bill in an amended form. So, as far as the Bill in the amended form is concerned, we are not going to oppose it. There are few submissions which I would like to make to keep the record straight that why the Committee found it feasible to incorporate certain amendments in the Bill, which was introduced in the Senate.

Sir, basically, as far as the Objects and Reasons are concerned, I think, the Committee as well as the Opposition have no objection to that. The Bill, as you know, suggested by the Ministry of Parliamentary Affairs basically focuses on full disclosure of companies' matters and the directors' report, qualification of auditors for private companies and publication of prospectus in abridged form.

Sir, there have been numerous complaints over the period of time, since 1984 when this Companies Ordinance came into effect that the directors are not looking after properly the share holders. The share holders have been making lot of complaints which I think, you might have read in the newspapers also, that their interests are not being protected and the directors hold a way over the entire affairs of these public or private limited companies. So, there were lot of complaints coming in from the share holders. Basically, this Bill was introduced to try and protect the share holders. Sir, the Bill as introduced in the Senate, I would like to say few things on each clause.

The first section that government wants to amend was Section 14 of the Companies Ordinance. Now sir, Section 14 pertains to obligation to register certain associations, partnership etc. Sir, for this, I would just like to read first couple of lines from Section 1, "that no association or partnership for company, consisting of more than 20%, shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its objects the acquisition of game by the association, partnership for company or by the individual members thereof, unless it is registered in the company in its original form". So, this Section 1 is in the manner in which the association or partnership has to be registered.

Now sir, in Section 3 certain exemptions have been allowed. So, the original Companies Ordinance in Section 3 grants exemptions to three categories. (a) any society, body or association other than a partnership from the incorporated, under any Pakistan law (b) a joint family carrying on a joint family business (c) a partnership of two or more joint families where a total number of members of such families excluding the minor members does exceed 20.

Now sir, as amended, because the committee has not changed the

amendment, has been brought by the Government. So, we basically, have added sub section b (2) to it i.e. if the exemptions allowed, they said that a partnership formed to carry on practices as Lawyer, Accountants or any other profession which practices as a limited liability company is not permitted under the relevant laws or regulations for such practices.

Basically the government has added and the committee accepted that, that a partnership which formed to carry on practices as Lawyer, Accountants i.e. , the professionals. We have also exempted the professionals from the provision of the incorporation of the companies.

Sir, though the committee agreed with whatever the government said but as far as the section 53 is concerned, publication of prospectus, in section 53, it raised to the prospectus and I would just like to read the sub section-1, "every prospectus of the original banking companies ordinance, every prospectus issued by or on behalf of a company or by or on behalf of any person who has been engaged or interested in the formation of a company shall place the matter specified under section 1 of part 1 of the second schedule and set out the report specified in section 2 of that part and the said section 1 and 2 shall have subject to the provisions contained in section 3 of that part".

Now sir, as the Bill was introduced, the Section 53, the government wanted to add sub section 1-A which means a sufficient number of copies of the prospectus issued under sub-section 1, shall be made available at the registered office of the company with a stock exchange and with the companies listed and with the bankers to the issue and the prospectus in its full text or in such an abridged form as may be prescribed. During the report sir, the shareholders or the general public both devoid of getting the prospectus of the public limited

companies. There are a lot of complaints coming from the stock exchange also that the prospectus were not available in proper or requisite quantities with the stock exchange.

So sir, we accepted this amendment but only thing that the committee added was that after the word "listed" we also added, "or propose to be listed", that even those shares which were proposed to be listed at the Stock Exchange, I mean in the prospectus, there should also be included that provision. So, basically the Section 53 was carried through as the government wanted.

Now sir coming to section 236. Now 236 sir, basically deals with the directors' reports. Now sir, again as I am trying to over-emphasise it as I have stated previously that the reports that are submitted by the directors in the annual general meetings, that there are a lot of repeated complaints coming in from the individual members or the shareholders of that company that the directors' reports were not properly presented or there were a lot of lacunas in those directors' reports.

Now, sir, government wanted to amend sub-section 2 of section 236. Sir, section 2 states:

(Interruption)

جناب چیئرمین، رضا صاحب ذرا نوٹ کر لیں، یہ انہوں نے جو amendments کی
at which the company is listed or proposes to be listed. May be, the language should be or is proposed to
be listed.

ڈاکٹر صدر علی عباسی، ہاں proposed ہے جناب۔

جناب چیئرمین، ہاں it is proposed ذرا دیکھ لیں۔

ڈاکٹر صفدر علی عباسی۔ جناب اگر آپ next دیکھیں ہماری جو report ہے۔
 جناب چیئرمین۔ نہیں اس میں آپ نے لکھا ہے کہ proposed لیکن میرے خیال
 میں is ہی آنا چاہیے or is proposed to be listed میرا خیال ہے ذرا دیکھ لیں۔ رضا صاحب you
 وہ can have a look on it in the meantime is proposed, proposed,
 یہاں پر غلطی ہے لیکن "is proposed to be listed" I think, it should be, may be, - جا۔

شیخ رفیق احمد۔ جی is listed اور proposed یہ دونوں جگہ پڑھا جائے گا۔

جناب چیئرمین۔ اچھا جی ٹھیک ہے تو - is listed or proposed to be listed -

ڈاکٹر صفدر علی عباسی۔ اس میں اور ایک اور -typographic error-

جناب چیئرمین۔ جی۔

ڈاکٹر صفدر علی عباسی۔ اگر آپ دیکھیں جو بل ہم نے، جس طرح as reported by

It should be proposed. the Standing Committee اس میں proposes کا لفظ آ گیا ہے۔

جناب چیئرمین۔ وہ غلط ہے۔ ہاں it should be proposed یہی میں کہہ رہا ہوں۔

ڈاکٹر صفدر علی عباسی۔ جی جناب I agree with it sir

جناب چیئرمین۔ یہ صحیح کر دیں جی is proposed to be listed جی۔

ڈاکٹر صفدر علی عباسی۔ بھنڈر صاحب or proposed ہو جائے گا۔

Mr. Chairman: Is listed or proposed to be listed.

ڈاکٹر صفدر علی عباسی۔ جی جناب Sir, now sub-Section 2 of

جناب چیئرمین۔ میرے خیال میں again is شاید آنا چاہیئے۔ رضا صاحب I think,
 may be it is better English to say, " is listed or is proposed to be listed".

ڈاکٹر صفدر علی عباسی۔ جناب اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔

Mian Raza Rabbani: You are absolutely correct sir, is proposed to

be listed.

Mr. Chairman: Equity company is listed or is proposed.

Mian Raza Rabbani: Or proposed.

جناب چیئرمین۔ ہاں یہ بہتر لگے گا۔

Mian Raza Rabbani: Yes, sir..

جناب چیئرمین۔ تو اس کو ٹھیک کر لیں۔ O.K۔ جی۔

Dr. Safdar Ali Abbasi: Or is proposed to be listed.

ماجی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔

Mian Raza Rabbani: Sir Clerical changes

میں آجائے گا۔

جناب چیئرمین۔ ٹھیک ہے جی محبوب صاحب اس کو note کر لیں۔ اس کو is

proposed to be listed or is proposed۔ جی۔

Dr. Safdar Ali Abbasi: Sir, now coming to Section 236, sub-Section 2, sir, this sub-Section basically deals with the case of public company or private company which is subsidiary of a public company. The directors report shall in addition to the matter specified in sub-section 1---. Sir, there are five provisions to this sub-section which asks the directors to disclose things like any material changes and the commitments and then deals with any changes that have occurred during financial year. Sir, there are five provisions and the government wanted to add that in addition to those five Clauses that is a,b,c,d,e. we should also add f,g,h, i, which is State earning per share, give reasons for incurring loss, future prospects of profit and contain information about the defaults and payments of debts and any other reasons thereof.

Sir, they wanted to add Clause-i also that is, disclose any other matter specified by the authority. The Committee felt that this is a wide ranging power to disclose any matter specified by the authority. So, we did not want to give the Corporate Law Authority or the Security Exchange Commission that is replacing the Corporate Law Authority, to have those wide ranging powers. So, what the Committee proposed was that we should not include this clause-i, as far as this bill was concerned. So, the Committee decided to delete this Clause- i.

Now, sir, coming to Section 245, as far as the Section 245 is concerned, it deals with half yearly account of listed companies. Now, sir, the government wanted to propose that if a company fails to comply with any of the requirements of this Section, there should be some sort of fine imposed on that company. So, the government wanted to propose a fine of Rs. 5000 and a further fine of 100 rupees for every day during which the default continues. We thought that these public limited companies are basically big companies with a big turn over and earn quite huge profit. So, we thought that it is not sufficient to fine them 5000 rupees. I think, rupees 5000 for them is no fine. So, the committee proposed that this fine should be increased to one lac rupees and for every day that this default continues rupees 500 should be changed to one thousand. So, sir, this was the background to this amendment that the committee proposed. Sir, I would just like to draw your attention to the report. The report column says that there was no amendment to Clause 5. Infact the amendment was made and I would like to clarify this point for the members that this amendment should be read as the bill reported by the standing committee. So that we just try to increase this fine for the default

Now, I am coming to Clause 6. Sir, as far as the Clause 6 was concerned, that relates to Section 254 and there was a heated argument on the amendment that

was proposed by the government. So, basically the government wanted to bring in the qualified accountants for the purpose of accounting. Now, the government wanted to propose that the chartered accountants as well as the cost accountants should be included in for the purposes of making these audits. So, the committee said that as far as the chartered accountants are concerned, they are more qualified, they are more in tune with corporate laws, so it would be OK, if the chartered accountants are included for these company audits. But as far as the cost accountants were concerned, the committee proposed that the last 3 sentences related to the cost accountants, the cost accountants should not be brought into the picture. So sir, the cost accountants were not included. But the chartered accountants were included for this proposed audit. So sir, I basically wanted to light the reasons behind the changes that were proposed by the committee. And as far as the bill is concerned, as proposed by the standing committee, I would request that the House may like to pass.

Mr. Chairman: This shows that

These are very good suggestions. There is need for more interaction in the government and the

committees. I think, it only improves the legislation.

ڈاکٹر صفدر علی عباسی۔ جناب والا! جو bills بھی آئیں گے ہم ان میں انشاء اللہ
تعمیراتی improvement ہی کیا کریں گے۔

چوہدری محمد انور بھنڈر۔ جناب والا! میں بھی اتنا ہی صاحب کی
سرکردگی میں اس کمیٹی کا رکن تھا۔ میں یہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ اس
ریپورٹ کے ساتھ ایک دو annexures لگے ہیں۔ ایک ہے کہ Bill as introduced اور دوسرا
ہے Bill as recommended by the standing committee. کے طور پر لگا

دینے گئے۔ یہ تو آسان طریقہ ہے کہ دونوں پکڑے اور ساتھ لگا دیئے اور لف کر دیئے لیکن ملتند طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو annexure بنتا ہے وہ comparative statement ہوتا ہے اور ایک صفحے پر ہوتا ہے۔ ایک سیکشن کے سامنے ایک سیکشن، دوسرے کے ساتھ دوسرا، تیسرے کے ساتھ تیسرا اور قانون سازوں کو یہ دیکھنے کے لئے آسانی رہتی ہے کہ یہ کیا تھا اور اس میں ترمیم کیا ہے۔ کمیٹی کی دوسری رپورٹیں تو narrative form میں ہوتی ہیں لیکن جہاں تک legislative proposals کا تعلق ہے، خواہ وہ وزارت داخلہ سے آئے، خواہ وزارت مالیات سے آئے، اس بل کے ساتھ comparative statement annexures میں آنے چاہئیں۔

جناب چیئرمین۔ میرے پاس ایک comparative chart ہے۔

چوہدری محمد انور بھنڈر۔ وہ comparative statement کمیٹی میں پیش کی گئی جب consideration ہوئی لیکن رپورٹ کا حصہ اس طرح بننا چاہیے۔

جناب چیئرمین۔ تینوں ہونی چاہئیں۔ جو original bill تھا وہ as amended by the standing committee and the original provisions which are being amended

Ch. Muhammad Anwar Bhinder: Yes sir, the original provisions which are being amended --

وہ بے شک نہ ہوں۔

جناب چیئرمین۔ نہیں؛ let us say آپ کہتے ہیں کہ اس میں and add کر دیں

تو جب تک original نہیں ہوگا تو کیا پتہ چلے گا۔

چوہدری محمد انور بھنڈر۔ جناب تین کالم ہونے چاہئیں۔ اس میں اور بجٹل بھی آ

جائے، اس میں جو government proposal originally لائی تھی وہ بھی آ جائے اور جو as

approved by the standing committee or recommended by the standing committee

بھی آ جائے۔ اس طرح ایک نظر میں ساری چیز consideration کے لئے سامنے آ جائے گی۔ اگر

اس annexure کو پڑھوں پھر کتاب کو پڑھوں۔ پھر اصلی کی طرف جاؤں تو پھر مجھے قہوڑی سی

دقت ہوگی۔ اس لئے میری تجویز یہ ہے کہ کم از کم legislative proposals کے لئے اس ایک

طریقہ کار کا دفتر کو ہدایت فرمادیں۔

جناب چیئرمین، جی محبوب صاحب اس طرح ہی کریں کہ آئینہ تین کالم بنایا کریں the original جس کو amend کر رہے ہیں، پھر جو گورنمنٹ نے Bill introduce کیا اور پھر جو Standing Committee نے اس پر رپورٹ کیا۔

Ch. Muhammad Anwar Bhinder: They should form part of the Report.

ڈاکٹر صدر علی عباسی، جب کمیٹی میں بل آیا تو یہ ہمارے پاس comparative statement تھی جس میں existing provisions دیئے ہوئے تھے۔ amended provisions جو گورنمنٹ نے propose کئے تھے وہ دیئے ہوئے تھے۔ اگر تیسرے کالم میں یہ آجانے کہ جو کمیٹی نے رپورٹ کیا ہے I think that would be sufficient.

Mr. Chairman: Correct! because now we have the Committee's Report.

ڈاکٹر صدر علی عباسی، جناب دو کالم already بنے ہوئے ہیں۔ اگر تیسرا یہ ڈال دیں گے تو میرا خیال ہے کہ سب ممبرز کو دیکھنے اور سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔

Mr. Chairman: In fact, we should have liked this. Existing provisions as reported by the Standing Committees and then as proposed by the Government.

Dr. Safdar Ali Abbasi: No, sir, first as proposed. Existing provision as proposed by the Government and then as reported by the Standing Committees.

Mr. Chairman: OK.

چوہدری محمد انور بھنڈر، جناب آپ کی سرکردگی تھی اور وہ بڑے experienced ہیں تو ہم جو رپورٹ submit کر رہے ہیں یہ comparative statement کے ساتھ کر رہے ہیں۔

Mr. Chairman: OK. Yes, please Dr. Hayee.

ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ، جناب صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ جو کمیٹیز آرڈیننس

۱۹۸۴ ہے اس کی Companies (Amendment) Bill, 1997 یہ جو انہوں نے پیش کئے ہیں، ویسے حقیقت یہ ہے جناب کہ یہ amendment بہت دیر سے لائے ہیں۔ کاروباری شراکت کا مسئلہ ملک میں چل رہا ہے۔ Corporate Law Authority ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود یہاں چونکہ کاروبار شفاف نہیں ہے اور اکثر جھگڑے اور شکایتیں ملک میں ہوتی رہی ہیں۔ میری اپنی دانت میں یہ 1984 Ordinance wherein 1997 amendment لائی گئی ہے، یہ بہت دیر سے حکومت لائی ہے۔ ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ملک میں صاف ستھرے کاروبار کی۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ جو improvement اس میں کی گئی ہے میری نظر میں یہ اب بھی ناکافی ہے۔ ہمیں مزید اس میں ایسی improvements کرنی ہوں گی تا کہ ہمارے ملک میں جو کاروباری شراکت ہے اور یا جو technocrats ہیں، technical لوگ ہیں ان کو بھی کھپلایا جاسکے ان اداروں میں۔ چونکہ یہاں documentation ہے نہیں۔ ہمارے ملک کا عجیب کاروبار ہے۔ ہم کروڑوں اربوں روپے کے کاروبار کرتے ہیں لیکن اس میں تنگی بہت ہے، یہاں شفاف اور صاف طریقہ کار نہیں۔ اگر شفاف اور صاف قوانین بنائے جائیں تو جو لوگ invest کرنا چلتے ہیں، اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہو گی۔ اب حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں، پیسہ بھی ہے لوگوں کے پاس تو وہ ایسے اداروں میں نہیں لیتے ہیں یا جو اجتمالی طور پر کاروباری شراکت میں ڈر کی وجہ سے نہیں لیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ وہ اصل رقم بھی گم ہو جائے۔ ہم ایسے قوانین لائیں کہ جس سے ہمارا private sector پھلے پھولے اور اس میں صحیح طریقے سے کاروبار ہو۔ پھوٹی موٹی یونجی رکھنے والے لوگ بھی shareholders بن جائیں، وہ بھی حصہ لیں، وہ بھی شریک ہو جائیں تا کہ صحیح معنوں میں ہماری بچت کی investment ہو سکے۔ میں انہی گزارشات کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ایسے تمام Companies Ordinance کے علاوہ اور جو کاروبار سے متعلق قوانین ہیں ان سب پر نظر ثانی کریں تا کہ ملک کے اندر صاف شفاف اور دیانتدارانہ کاروبار کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔

Mr. Chairman: Thank you. Yes, please Minister for Parliamentary Affairs.

میاں محمد یسین خان وٹو، جناب چیئرمین! میں سمجھتا ہوں کہ آج جس بل پر

بحث ہو رہی ہے اور دونوں طرف سے جس طریقے سے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جناب آج جو spirit اور روح یہاں ہم مباحثہ میں اور consensus میں دیکھ رہے ہیں، اچھی بات تو یہ ہے کہ ساری جمع تفریق کر کے جمہوریت کا نچوڑ یہی ہے کہ معاملات پر بیٹھ کے، ٹھنڈے دل سے غور کر کے مزید اسے اچھے سے اچھا، خوب سے خوب تر کرنے کی کوشش کی جائے۔ حکومت کا یہ بل اپنی جگہ پر ایک وقت کی بہت بڑی ضرورت کو پورا کرتا ہے جو تجربے کے بعد محسوس ہوا۔ اس میں ترامیم، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، عباسی صاحب نے ذکر فرمایا کہ ان ترامیم کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کمیٹی نے بھی اس کے ایک ایک لفظ پر غور کر کے اس میں مزید اضافہ کیا۔ اس کو خوب سے خوب تر بنایا۔ یہ بات قابل ستائش اور قابل داد بھی ہے اور صدر عباسی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اگر legislation اس طرف سے شروع ہو جائے تو بھی اچھی بات ہے۔ ابھی جناب آپ کے سامنے ہمارے بہت سارے بل آرہے ہیں جو یہاں سے ہی originate ہوئے ہیں۔ آپ کی کمیٹی کے پاس جا کر اس کے سلسلے میں رپورٹس آگئی ہیں، کچھ پر آپ کی طرف سے ترامیم آئی ہوئی ہیں۔ آپ کی وساطت سے میں اپنے قاضی بھائیوں سے جو حزب اختلاف میں ہمارے ساتھی ہیں، ان سے میں نے پہلے بھی استماع کی تھی، اب بھی میں استماع کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ جو ترامیم اس قانون کے لئے بہتر ہوگی انشاء اللہ وہ ہم افہام و تفہیم کے ساتھ قبول کر لیں گے۔ جب ہم ان کو convince کر لیں تو وہ ہماری بات کو پزیرائی بخشیں۔ اس سلسلے میں ہم legislation کے میدان میں بڑی بھرپور contribution کر سکتے ہیں۔

جس جذبے کے ساتھ حزب اختلاف نے تعاون فرمایا ہے اس بل کے پاس کرنے میں اور اس بل سے پہلے سی ڈی اے کے بل کو پاس کرنے میں، مجھے امید ہے کہ اب بھی legislation کے بارے میں ان کا یہ تعاون ہمیں حاصل ہوگا کیونکہ بہت سارے سینٹ کے کام ہیں۔ question hour, adjournment motion, privilege motion, important ہیں اور قراردادوں پر بھی بحث ہونی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں لیکن in the ultimate analysis جس طرح کہتے ہیں کہ legislation سینٹ یا قومی اسمبلی کا سب سے اہم ترین کام ہے۔ آج جس طرح توجہ ایوان کے دونوں جانب سے legislation کی طرف توجہ دی جا رہی ہے مجھے امید ہے کہ تمام اجلاسوں میں اسی طرف توجہ ہوگی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قوانین کو بہتر بنا

سکین اور زیادہ سے زیادہ وقت کی ضرورت کے مطابق legislation کو آگے بڑھا سکیں۔
 ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ صاحب نے فرمایا کہ یہ اچھا بل ہے لیکن اسے پہلے آنا چاہیے تھا۔
 پہلے اچھا کام جس وقت ہو جائے بھروسہ اچھا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ مزید اس میں ترامیم
 کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی وساطت سے جناب انہیں اور معزز ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ پیلک
 مٹا دیں جہاں بھی کسی قانون میں ترمیم کی ضرورت ہوگی، انشاء اللہ ہم اس کے مطابق اقدام
 کرتے رہیں گے۔ حزب اختلاف کے اعتراضات، تنقید وہ ساری چیز اپنی جگہ پر درست ہے لیکن ان
 کے تعاون سے امید ہے کہ ہم قوانین کو مزید بہتر بنائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ تعاون ان کا
 ہمیں حاصل رہے گا اور ماحول میں یہی خوشگواہی قائم رہے گی۔ شکریہ۔

جناب چیئرمین۔ رحاربابی صاحب۔

میاں رضا ربانی۔ جناب چیئرمین! میں اپوزیشن کی جانب سے معزز وزیر کو یہ یقین
 دلانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن نے ہمیشہ سینٹ اور پارلیمنٹ کو فوقیت دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ
 سینٹ کا اور پارلیمنٹ کا اولین کام قانون سازی ہے۔ ہم پہلے بھی اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ
 ترامیم دینے سے یا کسی legislation پر بحث کرنے سے ہرگز مہذبہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس
 قانون کو یا اس پرکس کو filibuster کریں لیکن ہم اپنی دانت میں اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ترامیم
 اس قانون کو بہتر اور زیادہ فعال بنا سکتی ہیں تو وہ ترامیم ہم پیش کرتے ہیں۔ آج مجھے اس
 بات کی نہایت غوشی ہے کہ غالباً تمام کے تمام بلوں میں خاصی ترامیم اپوزیشن نے دی ہیں۔ میں
 ان کی اس بات کا خیرمہم کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ان ترامیم پر بات کرنے کے
 لئے تیار ہیں۔ جہانگ تعاون کا تعلق ہے تو جناب سبلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ مجھے امید
 ہے کہ جیسے راجہ صاحب یا یسین وٹو صاحب ہوئے، اگر یہ درمیان میں رہیں گے تو legislation کے
 مسئلے پر ہمارا تعاون ہمارا برقرار رہے گا۔ آج بھی جناب چیئرمین صاحب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ
 جس طرح کی دھمکیاں وزیر قانون صاحب دیتے ہیں اگر وہ مد نظر رکھی جائیں تو پھر آج تو کورم
 بھی حکومت کی جانب سے پورا نہیں ہے کہ وہ بل کو پاس کر سکیں، لہذا میں ان کو ایک بار پھر
 اپوزیشن کی جانب سے اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ legislation کے مسئلے پر جہاں وہ ہم سے
 ترامیم پر بات کریں گے وہاں پر ہم بات کرنے کے لئے تیار ہیں اور بل کو پاس کریں گے۔

چوہدری محمد انور بھنڈر۔ جناب اگر ان کی observation یہ ہوگی کہ کورم نہیں

ہے تو۔۔

جناب چیئرمین - شکریہ جی - over all کورم ہے، ان کا مطلب یہ تھا کہ آج اگر ہم واک آؤٹ کر دیں تو آپ کا کورم نہیں ہے۔

چوہدری محمد انور بھنڈر - ہاں یہ بات درست ہے۔

جناب چیئرمین - جی ڈاکٹر صاحب۔

ڈاکٹر صفدر علی عباسی - بالکل ماحول اچھا ہے۔ میں اس کو appreciate کرنا چاہتا ہوں۔ میری ایک گزارش ہے آپ سے۔

جناب چیئرمین - atmosphere اس لئے اچھا ہے کہ آج آپ اچھے ہیں۔

ڈاکٹر صفدر علی عباسی - کچھ لوگ نہیں آئے ہیں تو معاملہ چل رہا ہے۔ جناب یہ دیکھیں ذرا کچھ لوگ ادھر نہیں بیٹھے ہیں تو معاملہ چل رہا ہے۔

Mr. Chairman: I think your mother's presence in the gallery has a lot to do with it.

Ch. Muhammad Anwar Bhinder : The gallery contributes to it sir, the gallery contributes to the "khushgawar" atmosphere.

جناب چیئرمین - ہاں بالکل ہم ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں تشریف لائیں دیکھیں۔

چوہدری محمد انور بھنڈر - جناب ہر روز آیا کریں۔

Dr. Safdar Ali Abbasi : Sir, I have all the respect for my mother. I think she is a distinguished lady and I think Bhinder Sahib has been her colleague for a very long time. Even Wattoo sahib since the days of West Pakistan Assembly when they were together members in 1962 West Pakistan Assembly. Sir, I have all the pride in her and I think she deserves whatever she has had all over her life.

Mr. Chairman : We all agree with you.

ڈاکٹر صدر علی عباسی - شکریہ جناب - جناب میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ جناب ہم بنیادی طور پر سیاسی لوگ ہیں۔ سیاسی commitments رکھتے ہیں سیاسی پارٹیز ہیں اور وہ ہمیں جناب elect کر کے اس ایوان میں پہنچاتی ہیں۔ میری حکومت سے عرض یہ ہوگی کہ we are swayed by whatever happens outside the House. We are not swayed by whatever the government is doing to the Opposition. We are concerned for how the accountability process is continuing میری ان سے عرض یہ ہوگی جناب بڑی مجموعی سی اور مودبانہ کہ جو بیجز constitution آپ کو allow کرتا ہے 'provisions آپ کو allow کرتی ہیں' وہ آپ کریں as a Government آپ کا وہ حق ہے آپ کریں - اور اپوزیشن کا یعنی ہمارا کام اس کو criticise کرنا ہے تو ہم آپ سے یہ request کریں گے کہ جی یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ detract ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی جواز نہیں بنتا 'یہ ان advertisement سے کیا ایسا فرق پڑتا ہے جناب - مطلب 'ہماری کیا آپ نے کردار کشی نہیں کی ہے۔ آپ مزید کر لیں گے دو سال آپ نے مکمل کوشش کر لی ہے کردار کشی کی - آپ نے مکمل کوشش کر لی ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی highlight ہو جائے۔ پیپلز پارٹی Highlight نہیں ہوگی - میں نے جناب پہلے دن سے یہ کہا تھا۔ ہم ابھی اپوزیشن میں آئے تھے اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تو جناب اس وقت بھی ہمارا یہی موقف تھا - پہلے دن سے سینٹ کے پیٹ فارم سے ابھی پوری توانائیوں کے ساتھ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم نے خواہ مخواہ کوئی filibustering کرنی ہے۔ ہم نے پوری توانائیوں کے ساتھ حکومت کو اپوز کیا ہے مگر ان کے اچھے کاموں میں ان کو سپورٹ بھی کیا لیکن ہم نے ان کو اگر اپوز کیا تو اپنے پورے دل کے ساتھ کیا ہے اور مزید بھی آگے جو جو خرابیاں ہوں گی ان کو ہم point out کریں گے۔ میری ان سے request یہ ہے کہ kindly یہ جو طریقہ کار ہے ان کا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس طرح annihilate ہو جائے گی یہ ناممکن ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں ناممکن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بھی سینئر 'سینیئر چھوڑ دیں' ایک بھی ایم این اے 'ایم این اے چھوڑ دیں' ایک بھی کارکن جب تک کھڑا ہے میدان میں' وہ پاکستان مسلم لیگ

کی ان آمرانہ پالیسیوں کو مکمل اپوز کرے گا اور انشاء اللہ جب تک ایک کارکن بھی ہمارا موجود ہے، ہمیں آپ تکال دیں سب کو پارلیمنٹ کے ہاؤسز سے، جب تک ایک بندہ ہمارا وہاں پر موجود ہوگا ہم آپ کو اپوز کریں گے اور پورے دل کے ساتھ، پورے جگر کے ساتھ اور جتنی بھی اپنی توانائیاں ہیں ان کے ساتھ وہ آپ کو اپوز کریں گے۔ مہربانی فرما کر ان چیزوں کو بھڑکیں۔ تھوڑا سا اگر آپ نے آگے constructively بڑھنا ہے تو اپوزیشن بالکل تیار ہے آگے جانے کو لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح آپ ہمیں annihilate کر دیں گے تو جناب میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ قطعاً ناممکن ہے۔ بڑی مہربانی جناب۔

Mr. Chairman: It has been moved by Mian Muhammad Yasin Khan Khan Wattoo, Minister for Parliamentary Affairs that the Bill further to amend the Companies Ordinance, 1984 (The Companies Amendment Bill, 1997) as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once.

(The motion was adopted)

Mr. Chairman: Now I take up the Bill clause by clause.

The question is that Clauses 2, 3, 4, 5 and 6 do form part of the Bill.

(The motion was adopted)

Mr. Chairman: Clauses 2,3,4,5 and 6 do form part of the Bill.

The question is that Clause (1), Short Title, Commencement and the Preamble do form part of the Bill.

(The motion was adopted)

Mr. Chairman: Clause (1) Short Title and Commencement and the Preamble do form part of the Bill.

Item No. 5, please read it out.

Mian Muhammad Yasin Khan Wattoo: Sir, I beg to move that the Bill further to amend the Companies Ordinance, 1984 { The Companies

(Amendment) Bill, 1997, be passed.

Mr. Chairman: This will now be 1999.

Ch. - Muhammad Anwar Bhinder: Sir, it will be 1999 and as reported by the Standing Committee because that is not there otherwise the original Bill will be passed.

Mr. Chairman: Correct, Please note it

یہ بھی ٹھیک کرنا ہے اور وہاں is بھی add کرنا ہے۔

So, it has been moved by Mr. Mian Yasin Khan Wattoo that the Bill further to amend the Companies Ordinance, 1984 { The Companies (Amendment) Bill, 1999; as reported by the Standing Committee, be passed.

(The motion was adopted)

Mr. Chairman: The motion is carried.

چلیں جی۔ اب anything else۔ اب جائیں کوئی Point of Order کوئی دل کی بھڑاس نکالنی ہے۔
میاں محمد یسین خان وٹو۔ جناب والا! میرے خیال میں اس خوشگوار موسم میں
آپ adjourn فرمادیں۔

POINT OF ORDER

Re: TELECAST OF QUESTION HOUR IN ODD HOURS

(MID-NIGHT)

سید اقبال حیدر۔ جناب والا! اس خوشگوار ماحول کو بہتر کرنے کے لئے میری گزارش
یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے رویے کو بھی درست کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر چھترمیں پی ٹی
وی پہلے بیٹھے ہونے تھے۔ چھترمیں پی ٹی وی سے میری گزارش ہے۔
جناب چیئرمین۔ جی وہ بیٹھے ہیں۔

سید اقبال حیدر۔ جناب والا! مجھے خوشی ہے کہ وہ ایوزیشن کے شیڈول پر تشریف فرما ہیں لیکن ایوزیشن کو جس طرح سے خبر نامے میں اور سینٹ کی رپورٹ میں نظر انداز کر رہے ہیں۔ جناب! وہ بہت ہی افسوس ناک ہے۔ جناب! روزانہ آپ یہ خبروں میں سنتے ہوں گے کہ سینٹ میں نکتہ اعتراض پر محترم عبدالستار لالیکا صاحب نے جو لمبی چوڑی تقریر فرمائی تھی وہ تو آگئی۔ سینٹ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے Foreign Minister کی لمبی چوڑی تقریر پوری دے دی۔ یہ روزانہ ناانصافی کر رہے ہیں۔ یا تو آپ ہمارے نکتہ اعتراض پر جو وزیر صاحب بیان دیتے ہیں یا جو ہمارے سوالات کا وزیر صاحب بیان دیتے ہیں، ان کو release کرنا بند کر دیں یا اگر آپ نہیں بند کرنا چاہتے تو انصاف کا، اخلاق کا، جمہوریت کا اور جمہوری روایات کا یہ تقاضا ہے کہ آپ دونوں کا نقطہ نظر دیں کہ سینیٹر نے کیا نکتہ اعتراض اٹھایا تھا، جس کے اوپر وزیر موصوف نے اتنی لمبی تقریر کی۔ سینیٹر نے کونسا سوال اٹھایا تھا اور کس سینیٹر نے اٹھایا تھا۔

جناب چیئرمین۔ اور اگر ڈاکٹر عبدالرحمنی کا نکتہ اعتراض ہو تو خبر نامہ اسی میں نکل جائے گا۔

سید اقبال حیدر۔ نکل جائے۔ میں دونوں options دے رہا ہوں۔ یہ جو reporting one-sided پی ٹی وی میں ہو رہی ہے۔ یہ اتھلٹی one-sided ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی وی ایک اور بھی غلط کام کر رہا ہے کہ ہمارے Question Hour کو جب سے ان کی یہ سروس UAE کے لئے شروع ہوئی ہے، اب تو رات کے ڈھائی، تین بجے شروع کرتے ہیں تاکہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ جناب! میری گزارش یہ ہے کہ Question Hour میں عوام کی دلچسپی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لاتعداد لوگ ہمیں ملتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اب وہ دیکھتے ہیں تو برائے مہربانی اپنے سامعین کو آپ اتنی سزا نہ دیں کہ وہ رات بھر جاگیں Question Hour دیکھنے کے لئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ Question Hour صرف PTV-1 پر نہیں ہونے چاہئیں۔ ان کو PTV-2 پر بھی ہونا چاہئیے۔ یہ غلط بات ہے کہ PTV-1 پر اسے confined کر دیتے ہیں۔ میں محترم چیئرمین صاحب! PTV جو کہ خود بھی سینٹ کا حصہ ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ سینٹ کی proceedings کو پورے احترام کے ساتھ صبح وقت پر PTV کے دونوں Channels میں جاری کریں اور اس کا جو تاثر ہو، وہ balanced ہو۔ جہاں نکتہ اعتراض کرنے والوں کے

بھی نام آئیں، ان کا نکتہ اعتراض بھی آئے اور اس کا جواب بھی آئے۔ میں آپ سے پھر ایک دفعہ اس کی سٹارٹ کرتا ہوں۔

Mr. Chairman: Mr. Pervez Rashid, you want to say anything on this.

سید اقبال حیدر۔ پرویز رحید صاحب سے میں اس بارے میں یقین دہانی چاہتا ہوں۔

جناب چیئرمین۔ جی کمال رضوی صاحب! آپ کا point of order بھی اسی سے

متعلق ہے۔ جی فرمائیے۔

جناب مصطفیٰ کمال رضوی۔ ہمارے colleagues نے question hour کے حوالے

سے اس وقت بہت اچھی بات کی ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ رات کے دو ڈھائی بجے کے

بعد آج کل دکھا رہے ہیں۔ اس وقت ظاہر ہے کہ کوئی نہیں جاگ رہا ہوتا۔ میری چیئرمین PTV

صاحب کو suggestion ہو گی کہ جناب اس کو ایسے time پر دکھائیں جب ہمارے university

going students, college going students بھی اس کو دیکھ سکیں۔ اگر وہ خبرنامے کے

فوراً بعد دکھائیں تو everyone is available, they are watching the news because it is

related with the national issues. they ہیں جتنے سوالات اور جوابات یہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں

are totally related to national issues. چیئرمین صاحب! آپ کی وساطت سے میری

suggestion یہ ہو گی کہ kindly اس کو یا تو خبرنامہ کے فوراً بعد دکھائیں یا پھر اگر کوئی ایسا

پرگرام ہے جو more important than the national issues which are being

discussed in the Senate here تو ٹھیک ہے مگر اس کے بعد anything before 11.00 p.m.

میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پر بڑا important سوال raise کیا گیا ہے، یہ پہلے بھی سینٹ میں

raise کیا گیا تھا۔ جناب ان کو اسے before 11.00 p.m. دکھانا چاہیئے۔

جناب چیئرمین۔ جی جناب مسعود کوثر صاحب۔

سید مسعود کوثر۔ جناب میں تو کسی دوسرے issue پر بات کرنا چاہتا تھا۔

جناب چیئرمین۔ اچھا پہلے یہ ختم کر لیں۔ جی راشدی صاحب۔

جناب حسین شاہ راشدی۔ جناب یہ جو نکتہ اقبال حیدر صاحب نے اٹھایا اور اس کی

تائید سینیئر رضوی نے کی۔ یہی مسئلہ میں نے بھی کچھ روز پہلے اٹھایا تھا۔ جناب وزیر اطلاعات کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے یہ بہت اچھا کام شروع کیا ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سینٹ کے question hour کی کارروائی دکھائی جاتی ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اس سے public educate ہو رہی ہے۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو دس بجے ' ساڑھے دس بجے تک سینٹ کی کارروائی دکھا دی جاتی تھی۔ میں نے specifically تاریخ بتائی کہ اس روز رات کو پونے دو بجے انہوں نے سینٹ کی کارروائی دکھائی ہے۔ رات بھی انہوں نے ایک بجے کے بعد سینٹ کی کارروائی دکھائی ہے۔ اب اگر لوگوں کو educate کرنا مقصود ہے تو جس طرح سینیئر رضوی نے suggest کیا ہے کہ اس کو ایسے ٹائم پر دکھایا جائے جب لوگ جاگ رہے ہوں اور T.V دیکھنے کے موڈ میں ہوں۔ جناب چیئرمین! رات کو پونے دو بجے کون جاگ رہا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر دیکھے اور جو دیکھتا ہے وہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں دیکھے گا۔ وہ پھر دوسرے غیر پارلیمانی مضامین میں منہمک ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے کم از کم دس یا ساڑھے دس بجے دکھایا جائے تا کہ واقعی public educate ہو، لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم کیا پوچھ رہے ہیں اور گورنمنٹ کیا جواب دے رہی ہے۔ آپ دور درشن کو دیکھیں، وہ بجٹ کی پوری کارروائی live دکھا رہے ہیں، بنگلے بھی ہو رہے ہیں، لالو پر شاد یادو بھی شور کر رہا ہے، لوگ ہاؤس میں بھی آ رہے ہیں۔ بھنڈر صاحب کی طرح چیئرمین غصہ ہو کر، adjourn کر کے بھی چلا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اور اس سے لوگوں کو چتا چلتا ہے کہ ہمارے public representatives کیا کر رہے ہیں۔ لہذا میری ایک مرتبہ پھر حکومت سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس مسئلے کا credit لینا چاہتے ہیں تو کم از کم کسی ڈھنگ کے ٹائم پر question hour دکھائیں۔

جناب چیئرمین۔ جی حنی صاحب۔

ڈاکٹر عبدالحمید بلوچ۔ جناب چیئرمین شکر۔ میں عرض کروں گا کہ یہ قومی ادارے ہیں، جو electronic media ہے، یہ پوری قوم کا ہے۔ ویسے بھی جس طرح ماحول اچھا ہے واقعی ایسا ہونا چاہیے۔ ہمیں جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کے لئے، جمہوری culture کے لئے، حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے لئے ideal ماحول create کرنا چاہیے جو ہمیں آج نظر آ رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے۔

موقع منا چاہیے۔ اس کا بڑا اہم impact ہوتا ہے۔

میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہ اہم پروگرام ہے سوال و جواب کا جو question-hour کو televise کرتے ہیں لیکن یہ وقت کا ضرور خیال رکھیں۔ ہم تو سوچتے ہیں دوسرے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے۔ جناب رات دو بجے تین بجے کون سنتا ہے جی، بہتر یہ ہے کہ جب آپ اتنی بڑی فراہمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ televise کر رہے ہیں، تو اس کو پھر بہتر انداز سے کریں اور باقی عوام کے مسائل جو ابا گئے جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ قومی اداروں پر آنا چاہیے، جہاں وزراء صاحبان کا جواب آتا ہے وہاں ایڈیشن کے ممبران کی بات بھی مختصر ہی سہی لمبی نہیں ایک دو لفظ ضرور آٹنے چاہئیں کہ انہوں نے اس مسئلے پر بات کی اور وزراء صاحبان نے یہ جواب دیا۔ شکریہ جناب بہت مہربانی۔

جناب چیئرمین۔ شکریہ جی قائم علی شاہ صاحب۔

سید قائم علی شاہ - جناب بڑے افسوس کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حکومت لوگوں کی دل آزاری کرنے میں، لوگوں کو پریشان کرنے میں، لوگوں کو بے روزگار کرنے میں خوشی محسوس کرتی ہے۔

جناب چیئرمین۔ آپ ٹی وی پر بات کر رہے ہیں یا کوئی اور بات کر رہے ہیں۔

سید قائم علی شاہ۔ نہیں جناب یہ اور مسئلہ ہے۔

جناب چیئرمین۔ پہلے اس کو ختم کر لیں پھر یہ بات بھی کر لیں گے۔ جی تاج حیدر صاحب پہلے یہ ختم کر لیں پھر آپ کے مسئلے پر آتے ہیں۔

سید قائم علی شاہ۔ خوش قسمتی سے وزیر موصوف بیٹھے ہیں ان کو کہہ دیں کم از کم

وہ بیٹھیں۔

جناب چیئرمین۔ جی میں ان کو بٹھاؤں گا جی۔ اگر جانے لگیں تو میری توجہ دلائیں

میں ان کو روکوں گا۔ پہلے ایک مسئلہ ختم کر لیں۔ جی تاج حیدر صاحب۔

جناب تاج حیدر۔ جناب عالی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس پروگرام کو دکھانے کے

لئے دن کے دو ڈھائی بجے کا وقت موزوں ترین ہے کیونکہ اس وقت تک تمام نوجوان درگاہوں

سے واپس آجاتے ہیں house wives بھی اپنے کام وغیرہ سے فارغ ہو کر بیٹھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ دن کے دو ڈھائی بجے اسے کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو sponsors مل جائیں گے کیونکہ لوگوں کی دلچسپی اس میں اس قدر ہے۔ اب ظاہر ہے کرکٹ میچ ہوتا ہے لوگ دن بھر بیٹھ کر اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی دلچسپی کسی کرکٹ میچ سے کم نہیں ہے تو میں چیئرمین صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کے لیے دن کے دو یا ڈھائی بجے کا time اگر consider کیا جائے اس وقت آپ کا کوئی Prime Time Programme بھی متاثر نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے لئے بڑی اچھی audience بھی مل جائے گی۔

جناب چیئرمین۔ جی جناب حاجی جاوید اقبال صاحب۔

حاجی جاوید اقبال عباسی۔ جناب چیئرمین صاحب ' جیسا کہ باقی ممبر صاحبان نے یہ عرض کی اور میری بھی یہی گزارش ہے کہ چیئرمین PTV یہاں بیٹھے ہیں ' رات ایک یا ڈیڑھ بجے کوئی بھی پروگرام نہیں دکھاتا ہے اور سینٹ ایوان بالا ہے۔ حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ سوالات و جوابات کا معاملہ آنے میں تو کہوں گا کہ یہ پوری کارروائی آئی چاہئے لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے جو کام ہو رہا ہے ' ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے ' وہ خبرنامے کے 'ٹورا' بعد یا دس گیارہ بجے سے زیادہ لیٹ نہ ہو۔ یہ پہلے بھی انہوں نے مہربانی کی تھی لیکن اب ایک یا دو بجے رات تک کون جاگتا ہے۔ اس لئے ان سے اور حکومت سے ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور اس کو عوام تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہمارے ممبران وہاں کیا کر رہے ہیں ' ہمارے وزراء کی کارکردگی کیا ہے ' اس پر روشنی ڈالنے کے لئے ' وزیراعظم کے اقدام کو عوام تک پہنچانے کے لئے یہ ضروری ہے۔ رات ڈیڑھ دو بجے کوئی بھی نہیں سنتا ' اس لئے اس کو رات دس گیارہ بجے دکھایا جائے۔ ٹکریہ۔

جناب چیئرمین۔ جی رجوانہ صاحب۔

Mr. Muhammad Rafiq Rajwana: Sir, I also support this view that the programme of the Senate, which is shown in the later hour, should be shown in the day time because we being the representatives from different provinces, people are concerned about us that how our representatives are behaving in the House

and what they are representing there. So, I support this view that the timing should be in the day as Taj Haider has said that it should be 2.30 p.m. or 3.00 p.m. when the students are back from the schools and the people are home. So, my request to the worthy Chairman would be that kindly change this time and the people should know what is happening here and how the people talk about their problems in this august House. So, my submission would be to the worthy Chairman that kindly change this time. Thank you.

جناب چیئرمین۔ جی چیئرمین پی ٹی وی۔

جناب پرویز رشید۔ جناب والا! مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ یہ نہ دکھانے والی شکایت مجھے دونوں طرف سے موصول ہوتی ہے اور سارا دن مجھے اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ خبر نامہ کے متعلق جتنی شکایت آپ کو ہے، اتنی ہی شکایت میرے ساتھیوں کو بھی رہتی ہے بلکہ کل ہی جاوید ہاشمی صاحب کوئی پندرہ منٹ مجھ سے ٹیلیفون پر لڑتے رہے کہ ان کی خبر نہیں چلی۔

جناب والا! میں خود محسوس کرتا ہوں کہ جو ٹیلی ویژن کی سیاسی coverage ہے اس میں شاید سب لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا ممکن نہیں ہے کیوں کہ ٹائم کی پابندی رہتی ہے۔ جیسے دوستوں نے ابھی کہا کہ ہم دن کے دو یا اڑھائی بجے چلا دیں۔ اب اس ٹائم پر کرکٹ چل رہی ہے۔ اگر میں کرکٹ کو بند کر دیتا ہوں اور سینٹ کی کارروائی چلانا شروع کر دیتے ہیں تو لوگوں کا اعتراض شروع ہو جائے گا اور آپ پھر کہیں گے کہ ہم نے لوگوں کو ان کے حق سے کیوں محروم کر دیا ہے۔

جناب والا! questions کے لئے آپ نے ایک گھنٹے کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ ہماری اس وقت ایک گھنٹے کی قیمت آٹھ سے دس لاکھ روپے ہے یعنی ٹی وی سے ہم یہ رقم کھاتے ہیں۔ کبھی بھی Question Hour ایک گھنٹے میں ختم نہیں ہوا۔ یہ سوا گھنٹے سے لے کر پونے دو گھنٹے تک چلتا ہے۔ ہم چونکہ آپ کے ساتھ committed ہیں اور ہمیں پونے دو گھنٹے آپ کو دکھانے پڑتے ہیں۔

جناب والا! جب اس گورنمنٹ نے take over کیا تو اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کا

سالانہ نقصان بیس کروڑ تھا اور وہ تین سال سے accumulate ہو کر ساٹھ کروڑ روپے تک پہنچ چکا تھا۔ اب اگر یہ نقصان بڑھتا جاتا تو پھر ٹی وی نے بھی اسی طرح بیٹھ جانا تھا جیسے واہڈا بیٹھ گیا ہے۔

جناب والا! ہم پر دونوں طرف سے constraints ہیں، ایک طرف ہماری economic constraints ہیں اور دوسری طرف آپ لوگوں کی خواہشات ہیں۔ میرے خیال میں ہم نے ان دونوں میں balance پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ٹیلی ویژن کے مالی معاملات کو بھی ٹھیک کیا جائے اور اس ہاؤس اور لوگوں کی توقعات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

جناب والا! ہم مالی معاملات کو اسی طریقے سے ٹھیک کر سکتے تھے کہ ہم اپنے entertainment کے پروگرام جو سکتے ہیں، جن کو لوگ sponsor کرتے ہیں، جنہیں خریدتے ہیں، ہم تھوڑی سی تعداد ان کی بڑھا دیں، کچھ ان کے وقت میں اضافہ کریں، لوگوں کو زیادہ opportunity دیں، زیادہ entertainment دیں تاکہ ہماری طرف سے لوگوں کو entertainment ملے اور ہمیں کچھ آمدنی ملے۔ کچھ ہم نے اس کام کو کیا اور کچھ اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور وہ ادارہ جو بیس کروڑ تک سالانہ نقصان میں جا رہا تھا، اس سال اس نے تقریباً سات کروڑ کا profit کما لیا ہے۔

جناب والا! اسی طریقے سے ہم نے آپ کی توقعات پر بھی پورا اترنے کی کوشش کی ہے۔ ٹیلی ویژن پر Question Hour نہیں ہوتا تھا، اب ہوتا ہے۔ شکایت یہ ہے کہ اس کا وقت زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ میں آپ سے متفق ہوں لیکن پہلے یہ فرق تو آپ تسلیم کریں کہ پہلے نہیں ہوتا تھا، اب ہوتا ہے۔

جناب والا! جب نیشنل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو جائیگا تو ایک گھنٹہ انہیں بھی دینا ہے اور ایک گھنٹہ آپ کو بھی دینا ہے تو دو گھنٹے جن کی قیمت چوبیس سے پچیس لاکھ روپے روز بنتی ہے وہ ٹیلی ویژن دیتا ہے۔

اب جناب والا! دیکھیں کہ سو دن ہمارے ہیں اور ایک سو بیس دن نیشنل اسمبلی کے ہیں تو پھر یہ دو سو بیس گھنٹے بنتے ہیں جن کو آپ خود calculate کر لیں کہ یہ کتنے کروڑ روپے بنتے ہیں۔ یہ کروڑوں روپے ہم آپ کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے اپنے خرچ سے برداشت کرتے ہیں۔ اس کے لئے حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی گرانٹ نہیں ملتی۔ نہ ہمیں

کسی قسم کا دوسرا مالی قاعدہ حکومت سے ملتا ہے۔ ہم اپنے ذرائع سے پیسے کھاتے ہیں اور اپنے ذرائع سے پیسے کھا کر پھر کروڑوں روپیہ آپ کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے صرف کرتے ہیں۔ question hour کی شکل میں، اوپن فورم کی شکل میں جس میں کہ live programme چل رہا ہے اور ہر ایک سوال پوچھنے کی اجازت ہے یعنی اس سے زیادہ ڈیموکریسی کیا ہو سکتی ہے کہ live programme چل رہا ہے، وزیر بیٹھا ہو اسے اور جو بھی چاہتا ہے اس سے کوئی سوال کر سکتا ہے۔ ٹیلیفون کے ذریعے کرے، فیکس کے ذریعے کر لے یا خود وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس سے سوال کرتے ہیں۔ تیسرا "مہدم" کے نام سے ایک پروگرام ہم نے TV پر چلایا ہے، جس میں وزراء، کو اور اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ کو بھی موقع دیا ہے کہ وہ اس پروگرام میں شامل ہوں اور شامل ہو کر جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں۔ ابھی کل برسوں میں ایک پروگرام دکھ رہا تھا جس میں محترم سینیٹر اقبال حیدر صاحب بیگم تمینہ دولتانہ سے کچھ سوالات پوچھ رہے تھے۔

سید اقبال حیدر، وہ پروگرام تو freeze کر دیا گیا ہے۔ وہ نہیں چل رہا ہے اس لئے کہ ہم نے ان سے pertinent سوالات کئے تھے۔ اور محترمہ تمینہ دولتانہ نے زور لگا کر اس پروگرام کو رکوا دیا۔ میری پوری اطلاع ہے۔ وہ تو بہت پرانا پروگرام ہے۔ last year بنا تھا اور آج تک release نہیں ہونے دیا۔

جناب پرویز رشید، اقبال حیدر صاحب آپ کی معلومات درست نہیں ہیں۔ یہ نیا پروگرام ہے، اب ریکارڈ ہوا ہے اور وہ چل رہا ہے۔ کل برسوں سے ہم اس کے ایشیا چلا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی باتیں سن سکیں۔ میرا عرض کرنا یہ ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کے درمیان balance پیدا کرنا ہے جس کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس میں تعاون کریں گے۔ ہماری جو مشکلات ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں گے۔ ہماری سینیٹنگ کمیٹی کے چیئرمین رضا ربانی صاحب ہیں۔ ہمارے اجلاس ہوتے رہتے ہیں۔ ہم اس کو زیادہ بہتر وقت دینے کے لئے کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے ہمارے مالی معاملات کا بوجھ بھی کم پڑ جائے اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس معاملے میں کچھ تھوڑی ہماری مدد بھی فرمائیں۔

سینٹ کی سینیٹنگ کمیٹی اور یہ ہاؤس جو ہم سے بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں اگر کبھی یہ بھی آواز اٹھائیں کہ TV کی کچھ مالی مدد بھی کر دی جائے یا کم از کم ہمیں حکومت سے مزید ایک چینل لے دیں جو صرف خبروں کے لئے اور سینٹ کی کارروائی کے لئے ہو کیونکہ جن ملکوں کی ہمیں مثال دی جاتی ہے ان کے پاس ۵، ۶ چینلز ہیں۔ ان کے لوگوں کے لئے ممکن ہے کہ وہ ZEE پر تفریح دیکھ لیں، دور درشن پر سیاسی خبریں دیکھ لیں۔ ہمارے پاس ایک ہی چینل ہے جس سے ہم سارے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس پر تفریح بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس پر لوگوں کو اخلاقیات کا سبق بھی سکھانا چاہتے ہیں۔ اس پر ہم لوگوں کو سیاسی معاملات بھی بتانا چاہتے ہیں۔

سید اقبال حیدر: میرے نکتہ اعتراض کا جواب نہیں دیا کہ وزیروں کے بیانات کو آپ release کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک نکتہ اعتراض کے اوپر جواب دیں۔ نکتہ اعتراض کا جواب بھی دیں اور نکتہ اعتراض اٹھانے والوں کا بھی نام دیں۔

(اس موقع پر گھر کی اذان کی آواز سنائی دی)

جناب چیئرمین، جی جناب پرویز رشید صاحب۔

جناب پرویز رشید، جناب میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ Question Hour کو ایک گھنٹے میں ہی ختم کیا کریں، تب ہی میرے لئے ممکن ہو سکے گا۔ کیونکہ آپ اس کو ڈیڑھ دو گھنٹے تک لے جاتے ہیں تو پھر تو کوئی وقت بھی میرے پاس available نہیں ہے اسی وجہ سے یہ delay ہوتا رہتا ہے۔ اگر اس کو آپ ایک گھنٹے میں ختم کریں گے تو پھر شاید کوئی اچھا وقت جس میں ہمارے لئے ممکن ہو میں پیش کر سکوں گا۔

جناب چیئرمین، ٹھیک ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ کریں مثلاً جس دن کرکٹ نہیں ہوتی یا اور کچھ نہیں ہوتا اس دن تو کم از کم afternoon میں کر دیا کریں۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح تاج حیدر صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی sponsor ہی مل جائے اگر afternoon میں ہو تو۔

جناب پرویز رشید: جناب sponsor تاج حیدر صاحب لے آئیں میں Prime Time

میں اسے لے آؤں گا۔

Mr. Chairman: Taj Haider, find sponsor.

دوسری بات یہ ہے کہ جس دن فارغ ہو afternoon کا وقت، اس دن جا دیا کریں تاکہ ہم بھی ٹائی وغیرہ لگا کر آیا کریں۔ جی جناب مسعود کوٹر صاحب۔

(ii) Re: SHIFTING OF THE DIVISIONAL HOSPITAL, KOHAT.

سید مسعود کوٹر، شکریہ جناب چیئرمین! میں آپ کے توسط سے وزیر صحت کی توجہ چاہتا ہوں۔ کوئی تین دن پہلے میں اپنے آبائی علاقہ، ضلع کوہٹ گیا تھا۔ وہاں پر چوک میں ایک احتجاجی کیمپ لگا ہوا تھا جس میں تمام ضلع کی سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کے علاوہ، سماجی کارکن بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا یا کسی خاص گروپ کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ مسئلہ یہ ہے جناب کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کوہٹ، بنوں، ڈیرہ، کرک، یہ بڑے پسماندہ اضلاع ہیں۔ وہاں پر صحت کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر تھیں، اس لئے 1994ء میں، اصل میں 1988ء میں ہم نے کوہٹ ڈسٹرکٹ میں ایک ڈویژنل ہسپتال شروع کیا تھا۔ اس کے پہلے مرحلے میں تقریباً سو ایکڑ زمین خریدی گئی۔ پھر دوسرے مرحلے میں، دو، تین، چار سالوں میں اس کی building complete کی گئی اور اب ایک بہت ہی اچھے ہسپتال کی شکل میں وہ بلڈنگ کھڑی ہے۔ 1994ء میں محترمہ منیظیر صاحبہ جب کوہٹ کو گیس دینے کے لئے آئی تھیں تو انہوں نے اس ہسپتال کے لئے ایک کروڑ روپے کے equipment دینے کا اعلان کیا تھا۔ ابھی یہ معلوم ہوا ہے جناب والا! کہ ابھی تک ہسپتال کو commission نہیں کیا گیا، نمبر 1۔

دوسری بات یہ ہے کہ اب وہاں سے سامان اٹھا کر کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ لے جایا جا رہا ہے۔ میری وزیر صحت صاحب سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے دو چیزوں کا ذرا آپ پتا کریں کہ جو سامان ابھی یہ وہاں سے لے جا رہے ہیں، وہ بڑا قیمتی سرجیکل سامان ہے۔ وہ وہاں سے ہنٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ نہ کیا جائے۔ تیسری میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اس ہسپتال کو شروع کروانے میں آپ بھی دلچسپی لیں۔ اگر صوبائی گورنمنٹ کے لئے کوئی مشکلات ہوں تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس کو assist کیا جائے تاکہ وہاں ہسپتال جلدی مکمل ہو جائے۔ شکریہ۔

سید قائم علی شاہ، پوائنٹ آف آرڈر۔

سید قائم علی شاہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ حکومت بہت ہی خوشی محسوس کرتی ہے جب کسی طبقے کو، یا کچھ لوگوں کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو یا بے روزگاری ہو۔ اب اور تو اور مزدور بھی نکال رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بنکوں کے ملازمین بھی نکال رہے ہیں۔ اب انہوں نے ہاتھ پھیرا ہے professionals پر۔ ڈاکٹروں کو سندھ میں نکالا گیا ہے۔ تقریباً 1700 ڈاکٹروں کو نکالا گیا ہے۔ انہیں اس وجہ سے نکالا گیا ہے کہ وہ کثریٹ پر تھے۔ جناب یہ ڈاکٹر پچھلے پانچ سال سے کام کر رہے ہیں اور against clear vacancies کام کر رہے ہیں۔ ان علاقوں میں کام کر رہے ہیں جہاں پر برسوں کوئی ڈاکٹر نہیں گیا۔ تھر کے علاقے میں نواب شاہ کے دور دراز علاقوں میں، اونارہ کے تھر میں، جہاں ہزاروں لوگ لیتے ہیں، وہاں میڈیکل کی سہولت بالکل نہیں تھی۔ وہاں حکومت نے basic health unit قائم کئے۔ عمارتیں بنائیں، equipment دیئے لیکن ڈاکٹر پھر بھی نہیں جا رہے تھے۔ یہ کثریٹ اس لئے تھا۔ ان کے ساتھ شرط یہ تھی کہ یہ لوگ اسی طرح دور دراز علاقوں میں جا کر خدمت کریں گے، کام کریں گے۔ ورنہ پہلے یہ تھا کہ کہیں نزدیکی شہروں میں ڈاکٹروں کو پوسٹ کر دیا کرتے تھے۔ وہ وہاں پر نہیں جاتے تھے، شہروں میں کام کرتے تھے، تنخواہ اس کے against لیتے تھے۔ انہوں نے actually وہاں پر جا کر کام کیا ہے۔ برسوں کیا ہے۔ پانچ سال کیا ہے۔

اب اگر حکومت کو، وزیراعظم صاحب کو کسی نے بتایا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ شاید پیپلز پارٹی کی حکومت نے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو نکال دو۔ نہ پوچھا، نہ سمجھا، نہ محسوس کیا کہ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوگی۔ کروڑوں روپے حکومت نے وہاں پر عمارتوں کے لئے خرچ کئے ہیں۔ اب وہاں کیا ہو رہا ہے کہ کہیں کہیں زمیندار لوگ ان جگہوں پر گھوڑے اور گدھے باندھ رہے ہیں۔ کروڑوں روپے کی بلڈنگز ستیا ناس ہو رہی ہیں۔ سامان گل سڑ رہا ہے۔ اب کوئی جواز نہیں تھا ان سترہ سو ڈاکٹروں کو نکالنے کا۔ یہ سترہ سو ڈاکٹر نہیں نکلے ہیں، بلکہ ان پر ہزاروں لوگ انحصار کرتے تھے۔ جنہوں نے اتنی محنت کر کے امتحان پاس کیا ہے۔ برسہا برس محنت کی ہے۔ یہ غریبوں کے بچے ہیں اور پھر پانچ سال نوکری کر کے، ان کی تو عمر بھی گزر گئی۔ اب کہیں job بھی نہیں مل سکتی۔ اب یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، compassionate

grounds پر حکومت کو ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان کو reinstate کر دیں کیونکہ ان کو بلاوجہ نکالا گیا ہے۔ چار سال اور پانچ سال نوکری کرنے کے بعد ان کو دو دو سال کی تنخواہیں بھی نہیں دی ہیں۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کو تنخواہ بھی نہیں ملی ہے۔ اب وہ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں پھر وہ مریں گے۔

میں وزیر صحت سے جو بہت ہی اچھے آدمی ہیں کہتا ہوں کہ انسانیت کے نام پر یہ مسئلہ حل کرائیں اور ان کو reinstate کروا دیں۔ یہ against vacancies تھے اور اس بنیاد پر اس شرط پر ان کی induction ہوئی تھی کہ یہ دہسی علاقوں میں 'دور دراز علاقوں میں کام کریں گے۔ یہ کٹریٹ تھا یہ ایسا کٹریٹ نہیں تھا کہ آپ ایک سال کے لئے کام کریں گے۔ پھر ایک سال کے لئے اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنانے کی 'سامان لینے کی اور اسٹاف دینے کی ضرورت کیا تھی۔ وہاں پر نمز بھی ہیں 'کپاڈنڈرز بھی ہیں اور دوائیاں بھی ہیں۔ وہ سارا اب حکومت کا نقصان ہوگا۔ آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جو انسانیت کے لئے اور وہاں کے لئے لوگوں کے لئے بھی دکھ کا باعث بنے۔ وہ لوگ اب نفرت کرنے لگے ہیں۔ اس سے متعلقہ کہ ڈاکٹر اپنے آپ کو 'جلائیں' اپنے آپ کو ماریں یا اس طرح کا کوئی اقدام کریں۔ ہم گزارش کرتے ہیں حکومت کو through health Minister ہاشمی صاحب سے 'کہ آپ مہربانی کر کے اس پر ہمدردانہ غور کریں اور کوئی اچھا اعلان ان کے لئے کریں۔ وہاں چونکہ گورنر rule ہے۔ یہ دراصل گورنر رول نہیں بلکہ مرکزی رول ہے۔ گورنر رول کا تو نام آ گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے صوبائی اختیارات لئے ہیں۔ ان ڈاکٹرز کے سلسلے میں مسلم لیگ کے اس وقت کے چیف منسٹر نے سندھ اسمبلی میں اعلان کیا تھا بلکہ assurance دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج سے یہ permanent ہیں۔ ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ اب اس کا تو پاس رکھیں۔ جس نے اسمبلی میں وعدہ کیا ہے۔ وہ اس وقت چیف منسٹر تھا۔ اب کیا ہے۔ آپ ان سے ناراض ہیں یا نہیں لیکن ان کے اعلان کا تو پاس رکھیں اور ان کے وعدے کا تو پاس رکھیں کہ انہوں نے ان ڈاکٹروں کو permanent کیا ہے۔ بہت شکریہ جناب۔

Mr. Chairman: Minister for Health.

مخدوم محمد جاوید ہاشمی، جناب چھترمین اجلی بت تو یہ ہے کہ کوہٹ کے

Divisional Hospital کے بارے میں فرمایا گیا ہے اور پھر سندھ کے ڈاکٹرز کے بارے میں۔ میں اس کو صوبائی مسند کہہ کر اس سے صرف نظر نہیں کرنا چاہتا۔ نہ ہی کرنا چاہیے۔ چونکہ یہ میرے نوٹس میں بات لائی گئی ہے کہ حلیہ محترم سابق وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ ایک کروڑ کا اعلان کیا تھا۔ اگر انہوں نے صرف اعلان کی بجائے پیسے کہیں بھی یا Social Action (SAP Programme) میں رکھے ہیں یا جہاں بھی رکھے ہیں۔ میں آپ کو assure کرتا ہوں کہ اگر اس Prime Minister انہوں نے کہا تھا تو ہم اس کو پورا کریں گے۔ وہاں پہ پہنچائیں گے۔ وہ بھی پرائم منسٹر تھیں اور as a Prime Minister جو بھی انہوں نے فیصلے public welfare کے لئے کیئے تھے۔ ہم ان تمام اقدامات کو آگے بڑھائیں گے۔ پیسے نہیں ہٹیں گے۔

دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے کوئی سلمان لے جایا جا رہا ہے۔ اگر صوبائی گورنمنٹ نے کوئی instructions دی ہوں تو مجھے نہیں پتہ۔ وہ بھی میں آپ کی اس بات کے بعد آپ کو assure کرتا ہوں کہ میں اس کا بھی پتہ کروں گا اور مرکزی سطح پر ہماری نہ کوئی instructions ہیں نہ ہم نے وہاں سے سلمان لے جانے کی ہدایت دی ہے۔ اگر صوبائی سطح پر کوئی instructions دی گئی ہیں تو میں اس ساری چیز کا جائزہ لوں گا انشاء اللہ۔ مجھے یہ ذاتی طور پر بھی مل لیں۔ یہاں پر اگر پوچھنا چاہیں گے تو میں ایک دو دن میں یہ ساری معلومات لے کر ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسی طرح سید قائم علی شاہ صاحب نے جو فرمایا ہے۔۔۔۔۔

سید مسعود کوثر، جناب آپ اس میں دلچسپی بھی لیں تا کہ یہ دوبارہ بحال ہو سکیں۔

مخدوم محمد جاوید ہاشمی، میں نے یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی لئے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ساری معلومات لے کر جیسا آپ کہہ رہے ہیں ہسپتال کو دوبارہ شروع کرایا جائے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر اس میں پیسے رکھے گئے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ centre کی جو بھی ذمہ داری ہو گی محترم بے نظیر صاحب نے بھی جو کچھ وہاں کہا ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں گے۔

اسی طریقے سے شاہ صاحب نے جو فرمایا ہے۔ میری دونوں حضرات کے لئے ذاتی نیازمندی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ویسے ہی ایک لحاظ سے Doctors کی shortage ہے اور اگر contract base پر ان کو رکھا گیا تھا اور پھر اس میں کوئی problems آئی ہیں تو اس کے لئے بھی میں آج ہی بات کر رہا ہوں گا۔ انشاء اللہ اس کے لئے بھی جو maximum صورت حال

ہو سکتی ہے relief دینے کی عوام کو، اس سلسلے میں یقیناً کچھ اقدامات کرنے کے لئے کھولے گا
 صوبائی گورنمنٹ کو بھی۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے جو شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ
 انسانیت کو دکھ دینے والی بات ہے۔ میں بھی ایک گزارش کر دوں۔ میرے پاس براہ راست یا
 centre کے پاس جو اختیارات ہیں ان میں medicines کی prices کا control ہمارے پاس ہوتا
 ہے۔ بد قسمتی یہ ہوئی کہ ۱۹۹۳ء میں ایک SRO sign کر دیا گیا پیٹنٹ پارٹی کی گورنمنٹ کے دور میں
 کہ ہم ایک formula کے تحت multi-nationals کو بھی اور یہاں پر بھی ہر سال بیس فیصد تک
 دواؤں کی قیمتوں میں increase دیں گے۔ اب ہمارے لئے یہ problems سامنے آ رہی ہیں کہ
 دوسری گورنمنٹ 1994-95ء میں increase کے لیے agreement کر گئی۔ اب 20% increase
 ہر سال جناب چیئرمین! بڑھتے جائیں تو یہ غریب آدمی کے لئے affordable نہیں رہتا کہ وہ اپنے
 مرض کے لئے دوا خرید سکے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ
 ایسا ہوا ہے کہ 20% increase کی بات ہوئی۔ ابھی تک دو سال میں ہم نے وہ increase نہیں
 دی ہے ان multi national companies کو۔ پھر ہم نے straight forward بات کی ہے کہ
 پہلے ان کی 29 دواؤں کی prices کو نیچے لے آئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے پھر 46
 دواؤں کی قیمتیں کم کر دی ہیں اور مزید بھی کم کریں گے۔ ایک طرف 700 ڈالرز کا raw
 material بازار میں موجود ہے۔ امریکہ اس کو چین سے، بھارت سے import کر رہا ہے۔ ہمارے
 اوپر حکومتیں اس طریقے سے فارموں بنا کر گئی ہیں کہ وہی 700 ڈالرز والا raw material وہ
 کہتے ہیں کہ multi national کے ساتھ ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہم وہ 30,000 ڈالرز per kg
 میں منگوائیں، ایک کلوگرام 700 ڈالرز میں available ہے ایک raw material، دوسری طرف
 پاکستان ایسا شاہ خرچ ملک ہے، ہمارے لادلوں نے یہ فیصلے کئے کہ نہیں ہم 30,000 ڈالرز میں
 وہی same material, same quality، جس کو امریکہ 700 ڈالرز میں لے رہا ہے، ہمیں سوئٹزر لینڈ
 سے 30,000 ڈالرز فی کلوگرام میں خریدنا پڑے گا۔ اب میں اس مسئلے پر کیا کروں، اس میں مجھے
 آپ کی support بھی چاہیے ہو گی، کیونکہ میں نے اس پر stand لیا ہوا ہے اور مجھے وزیر اعظم
 میاں نواز شریف صاحب کی مکمل تائید حاصل ہے۔ اس میں کوئی انسانیت کے ساتھ علم والی بات
 نہیں ہے۔ میں یہاں پر یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، یا
 حکومت میں، کوئی بھی سیاست دان جو public کی نمائندگی کرنے کے لئے ایوانوں میں آتا ہے،

وہ انسانیت کو تکلیف اور دکھ دینے کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم سب نے جا کر دوسرے دن اپنے عوام کے سامنے مجاہدہ ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی غلط فیصلے ہوئے ہیں، جس سطح پر بھی ہوئے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پچھلی حکومت میں ہوئے ہوں، حال کی حکومت میں ہوں، ultimately relief دینے کا جو عمل ہے وہ یہی قوم کے نائدے کرتے ہیں۔ میں ان قوم کے نائدوں سے یہ اچیل بھی کرتا ہوں کہ ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں، یہ stand ہم نے لیا ہوا ہے، اس میں ہمیں آپ کی support پاشیے ہوگی۔ مجھے توقع ہے کہ انشاء اللہ حاصل رہے گی اور اس میں انسانیت کو تکلیف اور دکھ دینے والے فیصلے ہوئے ہیں، میں کسی کو زیادہ رگیدنا نہیں چاہتا، ان کو بھی undue کرنے کا سہرا انشاء اللہ ہمیں حاصل ہے۔

جناب چیئرمین، شکریہ جی رضوی صاحب آپ کا پوائنٹ آف آرڈر کیا ہے؟

(iii) Re: DENIAL OF MEDICAL AID TO THE GIRL ON

HUNGER STRIKE.

جناب مصطفیٰ کمال رضوی، جناب چیئرمین! کل، مینڈر صاحب پریذائیڈنگ آفیسر

تھے، میں نے یہ مسند raise کیا تھا، میں آپ کے علم میں بھی یہ بات دوبارہ لانا چاہتا ہوں، وزیر صاحب یہاں پر موجود ہیں کہ یہ ان میڈیکل سٹوڈنٹ بچیوں کا مسئلہ ہے جو hunger strike پر ہیں کراچی میں۔

کل بھی میں نے یہی پوچھنا چاہا تھا، جو وضاحت کی تھی کہ they were denied medical aid, when they went to Jinnah hospital جو وہ بیوش ہونے لگیں 22 دن کی ہموک ہسپتال کے بعد اور بیوشی کے عالم میں جب ان کو ہسپتال لے جایا گیا، تو وہاں پر باقاعدہ humanitarian جو Immediate aid - medical aid deny کر دیا۔ grounds پر دی جاتی ہے یا فوراً امبرجنسی کے طور پر revive کرنے کے لئے یا جو بھی سلسلہ ہو، that is the government duty in the government hospitals پہلی بات میں یہ جاننا ہوں وزیر صاحب سے کہ اگر یہ medical aid deny ہوئی

تھی تو اس وقت کون میڈیکل افسران موجود تھے ڈیوٹی پر اور کیا یہ گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ
without the government کیونکہ they should be denied from the medical aid

instructions, they would not be denied medical aid یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات پر فوراً
those medical officers should be suspended immediately, because ' لینا چاہیے ' action
if they are doing such things اگر انہوں نے گورنمنٹ instructions پر یہ سب کچھ کیا ہے تو
بھرتو وہ مجبوری کے تحت ہوا، پھر وہ جوابدہ ہیں گورنمنٹ کے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو
those persons should be taken to task ان کو فوراً suspend کرنا چاہیے، ان کے خلاف
انکوٹری کرنی چاہیے، جو بھی عملہ تھا اس وقت ان کے خلاف انکوٹری ہو۔ وزیر صاحب اس وقت
جذبات میں آ کر یہ کہنے لگے کہ یہ politicise ہوا ہے اور politically اس کو motivate کیا جا
رہا ہے، ان کی مرضی نہیں تھی کہ وہ ہڑتال کریں۔

میں آپ کو بتاؤں کہ کل کے اخبار باقاعدہ اس کو ریکارڈ پر لے آئے ہیں کہ ان
بچیوں کے والدین نے ان کو کہا تھا کہ وہ ہڑتال ختم کر دیں but they denied. انہوں نے
اپنے والدین کو refuse کر دیا کہ نہیں! ہم یہ بھوک ہڑتال جاری رکھیں گی۔ زیادتی بھی ان کے
ساتھ بہت ہوئی کہ انہوں نے پوری زندگی لگا دی پڑھنے میں اور they got such a stage
where they were qualified and these were those girls who got 80% plus marks. کہنے

کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آدھے وزیروں نے یہاں آ کے اس مسئلے کو politicise کیا کہ یہ
politicise ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو hunger strike پر اکسایا جا رہا ہے۔ میں یہ دوبارہ ریکارڈ پر
لانا چاہتا ہوں جو کہ بھنڈر صاحب نے کل allow نہیں کیا ' he should have allowed me
because it was a point of order. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ کو adjournment
motion لینا چاہیے تھا۔ میرے ساتھیوں نے یہاں point out کیا کہ اس اجلاس میں آٹھ
adjournment motion ہوئے ہیں and none of them have been taken up اور ان کو
satisfy کر دیا گیا۔ جب یہ حالات ہوں گے adjournment motion لانے پر تو ظاہر بات ہے کہ

--- issue

جناب چیئرمین : جی جناب وزیر صحت - Now you are on a different subject.

Let the Minister answer. adjournment motion تھا وہ میرا مسئلہ ہے۔

You come and discuss with me.

مخدوم محمد جاوید ہاشمی ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرٹ پر --- میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون half ہے کون full ہے ، کون representative ہے ، کون لوگوں کی جائیں لیتا ہے ، کون ڈاکٹروں کو ، حکیموں کو مارتا ہے ، کون نہیں مارتا ، I without going in to these details, I just want to say, half Minister or full Minister کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میرٹ پر compromise نہیں ہوگا چاہے کوئی وزیر اعظم کی بیٹی ہو ، Health Minister کی بیٹی ہو ، اگر ہوا ہے تو وہ ہاؤس کے اندر کھڑے ہو کے کہیں کہ فلاں جگہ پر آپ نے میرٹ کو deny کیا ہے ، پہلی بات ---

سید تاج حیدر ، جناب جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں invigilator کے دتخت تک نہیں ہیں ، objective question ہیں اور ان میں صرف نک کرنا ہوتا ہے۔ ایسی طالبات بھی آئیں کہ objective میں ان کے 95% نمبر ہیں ۔

مخدوم محمد جاوید ہاشمی ، آپ تشریف رکھیں۔ بات یہ ہے جناب کہ اسی مرحلے پر میرے kith and kin میری بیٹی سمجھیں جس نے انٹری ٹیسٹ بھی پاس کیا ، جس نے میرٹ پر ملتان میں ساڑھے آٹھ سو نمبر لیے لیکن جب میرٹ لسٹ بنی تو وہ وہاں پر نہیں آ سکتی تھی ، نہیں آئی۔ میری بھانجی کا باپ فیڈرل گورنمنٹ کا ملازم ہے ، فیڈرل گورنمنٹ کے کوٹے پر وہ نہیں آئی۔ میرٹ پر تین بیٹوں نے آنا تھا نہیں آئیں ، نہیں ہو سکے گا ان کا۔

اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف کھڑے ہو کے اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں۔ لوگ آ کے آپ کو کہتے ہیں اور آپ نے ان کی نمائندگی کرنی ہے۔ میں اس کو appreciate کر رہا ہوں لیکن as a matter of fact کہیں پر اگر invigilator کا individual case ہے تو اس کو satisfy کرنے کے لیے پوراسٹم موجود ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو میرے پاس آئیں اور اگر نہیں ہوتا تو میں انکوٹری کروں گا کہ میرٹ کو کیوں deny کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے سارے options کھلے ہیں۔ آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے تو آپ ان کی نمائندگی کرنے کا حق رکھتے ہیں ، آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری سرانجام دی ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرٹ پر کوئی compromise نہیں ہوا ہے۔ اس گورنمنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سٹوڈنٹس کے admissions

کا معاملہ ہو ، کوئی مسئلہ ہو ، پورے ملک سے آپ ایک کیس لے آئیں کہ فلاں کا یہ حق بنتا تھا اور کسی ایم این اے ، سینیٹر ، منسٹر ، ایم پی اے یا کسی گورنمنٹ والے کو ترجیح دی گئی ہو ، آپ نہیں لاسکیں گے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچیوں کو deny کیا گیا ہے ، میں سمجھتا ہوں کسی ہسپتال میں ایسا نہیں ہو سکتا ، اگر ہوا ہے تو میں اس کی انکوائری بھی کروں گا۔ میں آپ سے پھر وعدہ کرتا ہوں اس فلور پر ، اس مہدس ایوان میں کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔

Mr. Chairman: OK. The House is adjourned till 10.00 a.m tomorrow morning.

[Then the House was adjourned to meet again on

Friday, 5th March, 1999 at 10.00 a.m.]
